

صوبائی اسمبلی خیبر پختونخوا

اسمبلی کا اجلاس، اسمبلی چیمبر پشاور میں بروز جمعہ المبارک مورخہ 11 جنوری 2013ء

بمطابق 28 صفر 1434 ہجری بعد از دوپہر چار بجے بیس منٹ پر منعقد ہوا۔
جناب سپیکر، کرامت اللہ خان مسند صدارت پر متمکن ہوئے۔

تلاوت کلام پاک اور اسکا ترجمہ

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ۔

فَإِذَا جَاءَتْ لِطَأْمَةِ الْكُتُبِ ۝ يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ مَا سَعَى ۝ وَبُرِزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى ۝ فَأَمَّا مَنْ
طَغَى ۝ وَءَاثَرَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۝ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى ۝ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ
عَنِ الْهَوَى ۝ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى ۝ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَلُهَا ۝ فِيهَا أَنْتَ مِنْ
ذِكْرِنَهَا ۝ إِلَىٰ رَبِّكَ مُنْتَهَىٰ ۝ إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ مَّن يَخْشَاهَا ۝ كَانَتْهُمْ يَوْمَ يُرَوَّنَهَا لَمْ يَلْبِسُوا إِلَّا عَشِيَّةً
أَوْ ضُحًى ۝ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ۔

(ترجمہ): سو جب وہ بڑا ہنگامہ آوے گا۔ یعنی جس دن انسان اپنے کئے کو یاد کرے گا۔ اور دیکھنے والوں کے
سامنے دوزخ ظاہر کی جاوے گی۔ (تو اس روزیہ حالت ہوگی کہ) جس شخص نے (حق سے) سرکشی کی ہوگی۔ اور
(آخرت کا منکر ہو کر) دنیوی زندگی کو ترجیح دی ہوگی۔ سو دوزخ (اس کا) ٹھکانا ہوگا۔ اور جو شخص (دنیا میں) اپنے
رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا ہو گا اور نفس کو حرام خواہش سے روکا ہوگا۔ سو جنت اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ یہ
لوگ آپ سے قیامت کے متعلق پوچھتے ہیں کہ اس کا واقع کب ہوگا۔ (سو) اس کے بیان کرنے سے آپ کا کیا
تعلق۔ اس (کے علم کی تعیین) کا مدار صرف آپ کے رب کی طرف ہے۔ (اور) آپ تو صرف (اخبارِ اجمالی
سے) ایسے شخص کو ڈرانے والے ہیں جو اس سے ڈرتا ہے۔ جس روزیہ اس کو دیکھیں گے تو (ان کو) ایسا معلوم ہوگا
کہ گویا (دنیا میں) صرف ایک دن آخری حصہ میں یا اس کے اول حصہ میں رہے ہیں۔

جناب سپیکر: جزاکم اللہ۔

ڈاکٹر حیدر علی: جناب سپیکر!

محترمہ نگہت یاسمین اور کزنٹی: جناب سپیکر صاحب!

جناب ثاقب اللہ خان چمکنی: جناب سپیکر صاحب! پوائنٹ آف آرڈر۔ زمونر پہ سوات

کبني چي کومہ دهما کہ شوې ده او په کوټه کبني، د هغوی د پاره دعا۔۔۔۔۔

جناب سپیکر: ایک ایک، آپ ذرا حوصلے سے کام لے لیں، ایک ایک بولیں تو، فاتحہ کیلئے۔

ڈاکٹر حیدر علی: ایک اور بات ہے۔

جناب سپیکر: نہیں، بات پھر بعد میں کریں گے، پہلے فاتحہ، کون؟

جناب ثاقب اللہ خان چمکنی: جناب سپیکر صاحب! پوائنٹ آف آرڈر سر، زمونر پہ

سوات کبني چي کومہ دهما کہ شوې ده او په کوټه کبني، په هغې کبني چي

کوم خلق شهيدان شوی دی، د هغوی د پاره دعا او غواړئ جی۔

جناب سپیکر: اچھا، ایک منٹ۔ میاں افتخار صاحب! آپ چونکہ پارلیمانی لیڈر منتخب کئے گئے ہیں تو آپ

سے گزارش ہے کہ آپ آگے اپنی سیٹ پر آجائیں۔

(تالیاں)

(اس مرحلہ پر وزیر اطلاعات اپنی پارٹی کے پارلیمانی لیڈر کی سیٹ پر تشریف لے گئے)

جناب سپیکر: جی ثاقب اللہ خان، تاسو دعا د چا د پاره؟

جناب ثاقب اللہ خان چمکنی: جناب سپیکر صاحب، د کوټي او د سوات په دهما کو

کبني چي کوم کسان په دهشت گردئ کبني شهيدان شوی دی سر، نو د هغوی د

پاره دعا هم کول دی سر او ریکویسټ مې دا وو چې یو جوائنٹ ریزولوشن هم په

دی باندې پیش کرو ځکه جی چې زمونږ نه زیاته دهشت گردی کوم ځایې ده؟

جناب سپیکر: جی مفتی جانان صاحب، دا چې دوئ کوم کوم ځایونه بنائی، د

هغوی ټولو د پاره پکبني پرون یو ډاکټر صاحب هم دلته کبني، د هغه څه نوم

وو؟ ډاکټر ریاض هم پکبني یاد کړئ جی او سوات والا هم او کوټي والا جی۔

جی مفتی جانان صاحب۔

(اس مرحلہ پر دعائے مغفرت کی گئی)

جناب سپيڪر: جزاڪم اللہ۔ ’کونجڙ آور‘۔

مياں افتخار حسين (وزير اطلاعات): جناب سپيڪر صاحب، يو منت خبره كول غوارم۔

ڏاکڻو حيدر علي: جناب سپيڪر صاحب!

جناب سپيڪر: ’کونجڙ آور‘ کے بعد، یہ دوچار کونجڙ هيں بس یہ ہو جائیں، پھر آپ کا اپناهاؤس ہے۔

وزير اطلاعات: جناب سپيڪر صاحب! يو منت خبره كول غوارم۔

جناب سپيڪر: مياں افتخار صاحب۔

وزير اطلاعات: جناب سپيڪر صاحب، ستاسو ڊيره مهرباني۔ يو خوزه د خپلي پارٽي او د پارليمانی پارٽي مشڪوريم چي هغوی ما ته دا عزت راکرے دے خو رشتيا خبره ده چي د بشير خان غوندي شخصيت چي نن زه دا هم ڊير غت زره غواړي چي د هغوی په ځائي باندې راتلل او بيا د هغوی په کرسئ کينينا ستل، د دنيا يو رواج دے چي خامخا يو ځائي خالي شي نو هغه ڊکيري او ما ته د بشير خان هغه ورځي يو خبره ياد شي چي په 1990 کينې جی دلته د وزارتونو د عوامی نيشنل پارٽي د طرف نه فيصله وه نو ما ته بي بي ويئل چي تاته ځکه نشي ملاويدے چي ته کشر ئي نو ما ته بشير خان ويئل چي مياں صاحب ته به ټول عمر کشر ئي نو ما ورته او ويئل چي په نيشنل پارٽي کينې خود سلو کالو نه مخکينې څوک مری نه نوزه به خود کشر يم، زه خو که د اتيا هم شم نو بيا به هم کشر يم۔ نن هغه وخت دے چي بشير خان نشته دے او چي کوم به مونږ په خپلو کينې گپ لگولو نن زه په هغې ځائي کينې ناست يم، زه د هغه د پينو د خاورې برابر هم نه يم او زه په رشتيار د ايمانداري خبره چي پينځه ديرش کاله د يو ملگري سره تيرول چي زما خپل ځوئے زما نه جدا شوے دے نو هغه د ديرش کالو په عمر کينې جدا شوے دے او بشير خان سره ما پينځه ديرش کاله شريک تير کړی دی۔ دغه وجه وه چي ما د ځوی په مرگ او په شهادت نه دی ژړلی خود بشير خان په شهادت ما درې څلور ورځي مسلسل ژړلی دی۔ نورې خبرې پرې نه کوم خوزه د هغه د روح سره او زمونږه عقیده ده چي شهيدان ژوندي وی، دا لوظ ورسره کوؤ چي د کوم عزت او د احترام په بنياد په دې اسمبلي هغه خپل Role ادا کولو، ڊير په خوش اسلوبی سره هغه خپل د پارليمانی ليډر په حيثيت د سپيڪر سره تعلق، د

انتظامیہ د خپل سیکرٹریانو او د هغی ملگرو سره تعلق او د اسمبلی ټول غړو سره تعلق دومره په بنه طریقه او د اپوزیشن د ملگرو سره د هغه نزدیکت، زه به کوشش کوم چې زه د هغوی هغی انداز ته رسیدے نشم خوزه ناپوهه هم ضروریم او وخت هم کم دے که په دې لړ کبني ما نه څه غلطی کبیری نو ما به ملگری معاف کوی۔۔۔۔

جناب سپیکر: ان شاء اللہ۔

وزیر اطلاعات: خوزه به کوشش کوم چې زه د هغوی دا ارمان پوره کړم او زه به یو ځل بیا او وایم چې هغه په دې سپینلې لار چې تلے دے د امن په خاطر تلے دے او جانان صاحب چې کومه دعا وکړه، مونږ نن هم وایو چې مذاکرات د مسئلې حل دے، ترجیح زموږ مذاکرات دی او خدائے د وکړی چې زموږ په وطن کبني امن راشی خو که چرته دا مشکل وی نو بشیر خان د خپلې خاورې او د امن په خاطر خان شهید کړے دے، مونږه هم د خپل وطن د خاورې د پاره د بشیر خان په شان د هغوی په نقش قدم تلو ته تیار یو، خپل ځان به شهید کړو خو خپله خاوره به چاته حواله نکړو او نه به هغوی ته لار پرېږدو۔ ډیره مهربانی، شکریه جی۔

جناب سپیکر: شکریه جی۔ فرنٹیئر لاء کالج کے پرنسپل صاحب اور طلباء طالبات اسمبلی گیلری میں تشریف لائے ہیں، آپ سب، ہاؤس کی طرف سے ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔

(تالیاں)

نشانزدہ سوالات اور انکے جوابات

جناب سپیکر: نور سحر صاحبہ، کونسیچن نمبر؟

محترمہ نور سحر: کونسیچن نمبر 8۔

جناب سپیکر: جی۔

* 08 _ محترمہ نور سحر: کیا وزیر ہاؤسنگ ازراہ کرم ارشاد فرمائیں گے کہ:

(الف) Formulation of policies and control with regard to urban

growth and development محکمہ کی ذمہ داریوں میں شامل ہے:

(ب) اگر (الف) کا جواب اثبات میں ہو تو گزشتہ چار سالوں میں اس ضمن میں کی گئی پیشرفت کی تفصیل فراہم کی جائے؟

جناب امجد خان آفریدی (وزیر ہاؤسنگ): (الف) جی ہاں، یہ درست ہے۔

(ب) گزشتہ چار سالوں کے دوران محکمہ نے Formulation of policies and control with regard to urban growth and development کے زمرے میں صوبائی حکومت کی معاونت کیلئے خیبر پختونخوا Condominium ایکٹ 2008 اور خیبر پختونخوا مینجمنٹ اینڈ ڈیولپمنٹ انسٹی ٹیوشن، آف پرائیویٹ ہاؤسنگ سکیمز رولز 2008 بنائے ہیں، اس کے علاوہ ہاؤسنگ ڈیپارٹمنٹ / پرائیویٹ ہاؤسنگ اتھارٹی صوبے کے تمام اضلاع میں بننے والی تمام پرائیویٹ ہاؤسنگ سکیمز میں متعلقہ ضلعی حکام کو تکنیکی معاونت فراہم کر رہا ہے۔

(نوٹ): اس ایوان کے علم میں اس بات کو لانا ضروری سمجھتا ہوں کہ محکمہ ہاؤسنگ کو جس مقصد کیلئے بنایا گیا تھا، کو اپنا مینڈیٹ تاحال حوالے نہیں کیا گیا ہے۔ یعنی محکمہ لوکل گورنمنٹ نے تمام Local Urban Authorities کو اپنی تھویل میں رکھا ہوا ہے اور اس سلسلے میں یہ معاملہ اس ایوان کی سٹیڈنگ کمیٹی کے سپرد کیا گیا ہے۔

Mr. Speaker: Any supplementary?

محترمہ نور سحر: ایس۔ سر۔ ان سے ہم نے چار سال کی کارکردگی کے بارے میں پوچھا تھا تو انہوں نے جو جواب دیا ہے کہ ہم نے پی ایم یو قائم کیا ہے، تو پی ایم یو کی انہوں نے Date تو نہیں بتائی کہ کس Date پر؟ ہم نے تو چار سال کی کارکردگی مانگی تھی، یہ ہمیں پی ایم یو کی ڈیٹیل دے رہے ہیں، پی ایم یو تو انہوں نے سال دو میں قائم کیا ہوگا، تو جب پوری ڈیٹیل نہیں دیتے تو پی ایم یو کے بارے میں ہمیں بتا کر ہم سے جان خلاصی کس طرح یہ کر رہے ہیں؟

جناب سپیکر: جی ملک ستار صاحب۔

جناب عبدالستار خان: جناب سپیکر! یہ ہاؤسنگ ڈیپارٹمنٹ کے حوالے سے یہ سوال آیا تھا، اس میں دو تین چیزیں جواب میں بڑی مبہم ہیں۔ ایک تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اختیارات نہیں ہیں کیونکہ لوکل گورنمنٹ، جو اتھارٹیز ہیں، وہ انہوں نے اپنے کنٹرول میں رکھی ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ دوسرا۔۔۔

جناب سپیکر: جی جی۔

جناب عبدالستار خان: دوسرا جو نکتہ بنتا ہے سر، اس میں پرائیویٹ سیکٹر اور پبلک سیکٹر میں جو ہاؤسنگ اتھارٹیز بناتے ہیں صرف اربن ایریا کیلئے یا رورل ایریا کیلئے بھی اس میں کوئی گنجائش ہے؟ یہ بتایا جائے تو مناسب ہوگا۔

جناب سپیکر: جی ٹریڈی بنچر سے، وزیر صاحب تو نظر نہیں آرہے ہیں، کون جواب دے گا؟ کسی کے حوالے بھی نہیں کیا ہے، بڑے افسوس کی بات ہے۔

محترمہ نور سحر: سپیکر صاحب! میری درخواست ہوگی کہ میرے اس کونسلر کو پینڈنگ رکھا جائے، جب وہ تشریف لائیں گے تو جواب دیں گے۔

جناب سپیکر: پینڈنگ، اس کو پینڈنگ کیا جاتا ہے لیکن یہ ذرا اچھی روایت نہیں قائم ہو رہی ہے کہ اتنا بے خبر وزیر، محکمہ بھی اگر ادھر بیٹھا ہو تو وہ بھی سن لے، جب منسٹر صاحب نہ ہوں تو آپ آرمیبل لاء منسٹر یا کسی اور منسٹر صاحب کو پورا بریف کر کے ادھر اسمبلی میں اپنی بزنس ضرور Convey کیا کریں۔ ہاؤسنگ ڈیپارٹمنٹ کو بھی وارننگ دی جائے۔ منسٹر بھی لا پرواہ ہے اور ڈیپارٹمنٹ اس سے بھی زیادہ لا پرواہ نظر آ رہا ہے۔ جی نور سحر صاحبہ، Next Question؟

محترمہ نور سحر: کونسلر نمبر 45- سر، منسٹر صاحب نہیں ہیں تو پھر کیا کریں گے؟

جناب سپیکر: یہ بھی ہاؤسنگ کا ہے؟

محترمہ نور سحر: جی سر۔

Mr. Speaker: Kept pending. Ji next, Noor Sahar Sahiba.

Ms. Noor Sahar: Question No. 60.

جناب سپیکر: جی۔

* 60 _ محترمہ نور سحر: کیا وزیر قانون ازراہ کرم ارشاد فرمائیں گے کہ:

(الف) محکمہ نے صوبائی محتسب سیکرٹریٹ میں مختلف گریڈز کے کئی ملازمین، افسران اور ریٹائرڈ افسران کو بھرتی کیا ہے؛

(ب) اگر (الف) کا جواب اثبات میں ہو تو بھرتی ہونے والے افراد کے نام، تعلیمی قابلیت، Pay and

allowances اور بغیر اشتہارات کے بھرتی کرنے کی وجوہات کی بھی تفصیل فراہم کی جائے؟

بیرسٹر ارشد عبداللہ (وزیر قانون): (الف) جی ہاں، یہ درست ہے کہ خیبر پختونخوا صوبائی محتسب

ایکٹ 2010 دفعہ 8 کے تحت صوبائی محتسب سیکرٹریٹ نے مختلف گریڈز کے کئی ریگولر ملازمین اور

افسران کو ڈیپوٹیشن پر اور براہ راست بھرتی کے ذریعے سے سروس رولز کی روشنی میں بعد از اشاعت اشتہارات اور بمطابق مروجہ قواعد و ضوابط بھرتی کئے ہیں اور یہ بھی درست ہے کہ خیبر پختونخوا صوبائی محتسب ایکٹ 2010 کی دفعہ 20 کے تحت کئی ریٹائرڈ افسران اور دیگر افراد کو کلسڈ تنخواہ پر وقتی اور عارضی طور پر بھرتی کیا ہے اور ان کی تنخواہیں مذکورہ ایکٹ کی دفعہ 25 کے تحت مقرر کی گئی ہیں۔

(ب) ریگولر افسران اور ملازمین جو ڈیپوٹیشن پر لئے گئے ہیں یا جن کی تعیناتی اور تقرری براہ راست بھرتی کے ذریعے عمل میں لائی گئی ہے، ان کے ناموں، تعلیمی قابلیت، گریڈ اور تنخواہ وغیرہ کی تفصیل اور ساتھ ریٹائرڈ ملازمین اور دیگر افسران جن کی کلسڈ تنخواہ پر وقتی اور عارضی تعیناتی زیر دفعات 20 اور 25 خیبر پختونخوا صوبائی محتسب ایکٹ 2010 عمل میں لائی گئی ہے، ان کے ناموں، عمدہ، عمر، تنخواہ اور بغیر اشتہارات کے بھرتی کرنے کی وجوہات کی تفصیل بھی ایوان میں پیش کی گئی۔

Mr. Speaker: Any supplementary?

محترمہ نور سحر: سر، یہ 60 ہے اور آگے 61 ہے، تقریباً ملتے جلتے ایک قسم کے کونسلر ہیں جو دو نمبر پر آئے ہوئے ہیں۔ تو اس پر میں نے ان سے یہ پوچھنا ہے کہ انہوں نے اتنی بڑی جو فوج بھرتی کی ہے، LLM اور LLB والوں کی، تو ان کو ایک تو انہوں نے وکیل Already مقرر کر دیا ہے جو ریگولر ہیں، اس کے بعد ان کیلئے ایڈوائزر بھی لے لیے ہیں، اگر وہ اپنی فیلڈ میں کام نہیں کر سکتے تو وکیل کو پھر لینے کی ضرورت کیا تھی؟ پھر تو وہ ایڈوائزر ہی لے لیتے۔ اگر وکیل اپنی فیلڈ میں کام کر سکتے ہیں تو پھر ایڈوائزر رکھنے کی کیا ضرورت تھی، اتنی لمبی فوج رکھ کر صوبے پر بوجھ ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور ان کا Out put اور In put کچھ بھی نہیں ہے۔ انہوں نے کچھ کام نہیں کیا ہے اور فوج کی فوج بھرتی ہو رہی ہے تو مجھے تو سمجھ نہیں آرہی تھی کہ اتنی فوج رکھنے کی ضرورت ہے؟ اس کی سمجھ مجھے نہیں آرہی ہے۔

محترمہ شازیہ طہماس خان: جناب سپیکر!

جناب سپیکر: جی بی بی، شازیہ طہماس۔

محترمہ شگفتہ ملک: سپیکر صاحب، سپلیمنٹری۔

جناب سپیکر: جی جی، یو منٹ تاسو دہی پسی جی۔ جی طہماس، یہ لیڈرز ہمارے محتسب

کے پیچھے کیا پڑ گئی ہیں، آپ سب۔ (قہقہے) جی شازیہ طہماس، کونسلر؟

محترمہ شازیہ طہماس خان: سر، یہ صوبائی محتسب کا جب ادارہ بنا تھا تو ان دنوں مجھے یاد ہے کہ میرے حلقے سے کافی لوگوں نے اس میں Apply کیا تھا اور براہ راست اس میں، اس حوالے سے جتنی بھی

Correspondence تھی، میں نے پراونشل گورنمنٹ کے ساتھ Verbally کی۔ مجھے انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو بھی اس میں بھرتی ہوگی، وہ اخبارات میں آئے گی۔ مجھے یہ بتایا جائے کہ آیا اس کے ساتھ کوئی اشتہار لگا ہوا ہے جو انہوں نے براہ راست بھرتیاں کی ہیں؟ ایک بات اور دوسری بات کہ اتنی بڑی فوج جو انہوں نے صرف صوبائی محتسب کیلئے بھرتی کی ہے تو باقی اداروں کا کام کیا ہے؟ مانیٹرنگ کی میکنزم ہوگی، احتساب کی میکنزم ہوگی، آڈٹ کی میکنزم ہوگی، ہر ڈیپارٹمنٹ کی اپنی ہوتی ہے تو پھر اس فوج کو 'ایکسٹرا' بھرتی کرنے کی ضرورت کیا تھی؟

جناب سپیکر: جی شکفتہ بی بی۔

محترمہ شکفتہ ملک: منہ سپیکر صاحب۔ دیکھنی چھی کوم یو خو شازیہ بی بی خبرہ وکرلہ، زہ ہغہ Second کوم چھی دیکھنی ہغہ اشتہار والا ہغہ چھی دوئی کوم نہ دے ورکھے۔ بل چھی کوم د ریتائرڈ کسانو تپوس شوے دے او دوئی وائی چھی دا مونبرہ عارضی یا پہ فکسد اخستی دی نو آیا زہ دا تپوس کومہ د منسٹر صاحب نہ چھی پہ دہی پورہ صوبہ کبھی مونبرہ سرہ داسی Talented خلق یا دومرہ خوانان چھی راخی روزانہ د زرگونو پہ تعداد کبھی مونبرہ سرہ بے روزگارہ خلق دی نو آیا ہغہ نشتہ چھی دوئی ہغہ ریتائرڈ کسان بیا خومرہ چھی محتسب سیکرٹریٹ دے، پہ ہغی کبھی تول ریتائرڈ کسان اخستی شوی دی، دا خہ وجہ دہ؟

محترمہ گلہت یاسمین اورکزئی: جناب سپیکر۔

جناب سپیکر: یہ تو ایجوکیشن کا محکمہ بن گیا جی۔

محترمہ گلہت یاسمین اورکزئی: نہیں سر، یہ جو بات میری بہنوں نے کی ہے سر، اس کے ساتھ میں بالکل متفق ہوں کہ جو لوگ ریٹائرڈ ہو جاتے ہیں سر، یہ All over تمام ڈیپارٹمنٹس پہ یہ لاگو ہونا چاہیے، بہت سے ڈیپارٹمنٹس ایسے ہیں کہ وہ اپنے لوگوں کو جب وہ 60 years پورے کر لیتے ہیں تو ہمارے نوجوانوں کا راستہ روکنے کیلئے پھر جی وہ آکر ہم پر مسلط ہو جاتے ہیں اور پھر وہی تنخواہیں ہوتی ہیں، پھر وہی مراعات ہوتی ہیں۔ تو جناب سپیکر صاحب، ہماری اسمبلی سے ایک ایسی قرارداد آنی چاہیے کہ جو ریٹائرڈ لوگ ہیں، بس وہ اب اپنا کاروبار کریں، جو انہوں نے Enjoy کر لیا، Sixty years جو پاکستان کو دے دیئے، وہ Enjoy کریں اور ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں، جو کوئی ڈبل ایم اے ہیں، پی ایچ ڈی ہیں، ان کو آگے آنے کا موقع دیں اور 'جائز' میں ان کو Priority دی جائے۔

جناب سپیکر: مفتی کفایت اللہ صاحب Last Question، بس۔

مفتی کفایت اللہ: شکریہ سپیکر صاحب، بہت زیادہ شکریہ۔ یہ منسلکہ ڈی، کیطرف میں ان کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں، انہوں نے وصال خان کو انوسٹی گیشن آفیسر مقرر کیا ہے اور 30 ہزار تنخواہ ہے اس کی، فاروق جان بابر، اس کی بھی 30 ہزار ہے، حبیب اللہ بیگ، یہ 30 ہزار اور نور البصر 50 ہزار، محمد اقبال 50 ہزار، عارف کمال 50 ہزار، فقیر حسین 80 ہزار اور شاہ جی رحمان کی 80 ہزار تنخواہ ہے جی اور 80 ہزار مینے میں دینے کیلئے یہ جواز بتایا ہے کہ چونکہ ہمارے ایکٹ کے اندر کمزوری ہے، اس لئے ہم اس کے پابند نہیں ہیں کہ ہم اشتہار دیدیں۔ کوئی Able لوگ آئیں، آپ سے مقابلہ کریں اور میرٹ کے لحاظ سے لوگ بھرتی ہو جائیں، یہ میرٹ کے بغیر بھرتی ہوئے ہیں۔

جناب سپیکر: جی آزیبل لاء منسٹر صاحب۔

بیرسٹر ارشد عبداللہ (وزیر قانون): مہربانی جی۔ زما خیال دے بنہ دلچسپی پکبھی تولو ممبرانو واخستہ، زہ دیر شکر گزار یم د دوئی۔ داسی دہ جی، یو خو محتسب دا ادارہ چہ کومہ دہ، دا ہم دہی اسمبلی دا ایکٹ پاس کرے دے او تولو صوبو کبھی دا ادارہ وہ خو دلته نہ وہ، نومونر خو دا گنو چہ دا د اسمبلی یو فخر دے، د حکومت یو فخر دے، بلہ خبرہ دا دہ چہ دا خنگہ د اسمبلی یو خان لہ حیثیت دے آئینی، تھیک دہ لاء دیپارٹمنٹ سرہ مطلب دا دے یو Attached department د بجٹ پہ وخت کبھی دغہ کیبری Otherwise اسمبلی خان لہ یو سیکرٹیریٹ دے۔ دغہ شان چہ کوم گورنر سیکرٹیریٹ دے، ہغہ خان لہ یو سیکرٹیریٹ دے Although د بجٹ وخت کبھی زہ ودیریمہ او د ہغی بجٹ غوارم۔ داسی محتسب ادارہ چہ کومہ دہ جی، دا خان لہ یو ادارہ دہ، مونر سرہ ہسپی رولز آف بزنس کبھی Attached دہ خودا یو ریگولیٹری ادارہ دہ، د دہی کار دا دے چہ یرہ دا بہ نورو بانڈی Oversight کوی، د دہی Annual Progress Report چہ کوم دے، ہغہ ستاسو مخکبھی شویدے چہ خومرہ خومرہ مشکلات دوئی کومو لنڈو ورخو کبھی دغہ کریدی۔ باقی خبرہ Basically د اپوائنٹمنٹ دہ۔ دوہ پاورز ورلہ دہی اسمبلی ورکریدی، ایکٹ ورلہ ورکری دی، یو چہ کوم Scheduled پوسٹونہ دی چہ کوم طریقہ کار ہغہ واضح دے، ہغہ Through zonal allocation کیبری، خہ میرٹ وی Ten percent او باقی زما

خيال دے Ninety percent چي کوم وي، هغه Zonal allocation کي پري نو هغي کي بي زياد تر داسي Employees دي چي هغه لاء ڊيپارٽمنٽ، هوم ڊيپارٽمنٽ، نور ڊيپارٽمنٽس نه په ڊيپوٽيشن باندې تلي دي او دغه پوستونه ئے Already چي گورنمنٽ سرونٽس دي، هغوي تلي دي په ڊيپوٽيشن باندې، باقي ايډوائزرز هغه خلق دي چي يره هغه دا نوې اداره چي کوم وي تش په Youngsters باندے نشي چلولي، ديکيبي Experienced کسان پکار وي، هغه سيڪشن 20 دے د محتسب چي کوم ايڪٽ دے، د هغي د لاندې هغه 20 کيبي دا ده، هغه دا په نور چي کوم پراونسز دي يا Federal Ombudsman چي کوم ايڪٽ دے، هغي کيبي هم دغه اختيارات دي او باقاعده د هغوي Letters, written letters راغلي دي، Copies چي کوم زه بنودل غوارم، که خوک ئے کتل غواري، هغوي هم ورته دا وئيلي دي چي دا د محتسب يو Exclusive اختيار دے چي هغه دا ايډوائزرز اخستے شي او دا Temporary او د ڊي ڊيلي ويجز ٽائپ مثال وي چي هغه خپل ديکيبي ريتائرڊ، لکه دا شاه جي رحمان صاحب چي دوي ياد کرو، دوي د هائي کورٽ جج هم پاتے شوي دے، دے ڊسٽرڪٽ اينڊ سيشن جج ڊيره موده پاتے شوي دے، نو نن سبا اتيا زره روپي چي کوم ده، هغه داسي د دغه Caliber خلقو د پاره دا هيخ خبره نه ده او بله خبره دا ده چي دا Temporary دي لکه Fixed pay چه ورکوي، هغه ٽائپ شے دے لکه داسي شه Permanent job نه دے، نه پکيبي پنشن شته، نه Gratuity شته، نه دغه شته او دا اسلام آباد کيبي کوم آرگنائيزيشن کيبي دوي کار کړے دے، داسي ٽائپ ايډوائزر هغوي Experienced ساتي ځکه چي نوې اداره کهلاؤ شي خاما هغوي ته څه نه څه د Experience حاجت وي خو داسي هيخ قسمه Illegality نشته، د هغه قانون د لاندې اختيار دے، خپل اختيار ئے دغه کړيدے او نورو صوبو کيبي او فيڊرل گورنمنٽ کيبي چي کوم هغوي هغه محتسب حضرات ته چي کوم دا اختيارات ورکړي دي، د هغي ليٽرز هم ما سره شته چي هغوي وائي چي يره مونږه هم دلته بغير ايډورٽائمنٽ دا ڊيلي ويجز يا دا Fixed Pay والا چي کوم دي، دا مونږه داسي کوؤ نو لکه داسي شه Illegality پکيبي نشته جي-

مفتي کفايت اللہ: جناب سپيکر صاحب!

جناب سپیکر: جی وٺي مطمئن نه شوئ، دومره اوڀر جواب ئے درکرو۔ جی مفتی صاحب۔

مفتی کفایت اللہ: زه خو جی د ارشد عبداللہ صاحب د پارہ ہمیشہ داسی الفاظ استعمالوم چي د دوی احترام پکبني ملحوظ وی۔ دوی سات او آتھ ته نه گوری کنه، محمد فاروق جان بابر 66 سال عمر ہے، فلسڈ تنخواہ نہیں ہے اور 30 ہزار روپے ان کی تنخواہ ہے اور محمد وصال انوسٹی گیشن افسر نہیں ہے دونوں؟ نو چي کوم یو افسر هغه فکسید دے، هغه دیھاری باندی وی، هغه به تفتیش خنگه کوی؟ لکه زما مطلب دا دے چي دھریو سپری خودا یوزیشن نه دے، مجبوری نه ده کنه۔ تاسوله فریش کسان ملاویدے شی، میرت باندی کسان اخستے شی، اخر د دی بوڈھاگانو اخستو ضرورت خه دے؟ او هغه هم انوسٹی گیشن د پارہ، نو Kindly که دا ارشد صاحب نه خفه کیبری، لڑهلتنه به اوگورو دی کمیٹی کبني، لڑدا کهلا ایکٹ به هم اوگورو، دا به هم اوگورو که خه داسی یو بهتر صورت راخی نو دوی د نه خفه کیبری۔

محترمہ عظمیٰ خان: جناب سپیکر، ایک بہت ہی Important مسئلہ ہے، اگر۔۔۔۔۔

جناب سپیکر: ودریہ۔ جی۔

وزیر قانون: دغه حوالی سره به زه دا وایم چي خنگه چي نگهت بی بی اوویل چي یره لکه داسی یو قرار داد، قرار داد خود هر چا خپل دغه دے، دوی د راولی۔

جناب سپیکر: قرار داد خوراوستے شی، راولہ۔

وزیر قانون: قرار داد راوستے شی، هغی باندی به مشوره وکرو۔

جناب سپیکر: خودا اوس د کمیٹی خبره وشوه، تاسو خه؟

وزیر قانون: نه جی، کمیٹی ته خبره دا ده جی چي بعض انسٹی تیوشنز وی، دا نوے انسٹی تیوشن دے، دا Build up کیبری۔ دی وخت کبني چي کوم دے دا مونیر کوشش کوؤ چي یره مونیره کو آپریشن کوؤ دوی سره او دی وخت کبني زه نه ویل غوارم، خا مخا مونیره سیاسی خلق یو، ز مونیره هر خائی دغه وی، مونیره خو خلق راته وائی چي یره مونیر له شوک بهرتی کره یا دا وکره او چي کله اونشی نو

بیا مطلب پر اہمیت پر سوال، سوال ہم پرے راو، پر یو یلیج موشن ہم پرے راو، داسی مسئلے ہم شتہ چے زہ نہ وئیل غوارم پہ دے ہاؤس کبھی۔

جناب سپیکر: تاسو نے Oppose کوئی؟

وزیر قانون: او Oppose کوم جی، بالکل۔

جناب سپیکر: خود 86 سال بوڈھا گان خودہ اخلی کنہ۔

وزیر قانون: نہ نہ 86 سال خودہ پکبھی نشتہ جی، 86 سال نشتہ دے۔

جناب سپیکر: نو دا چا پکبھی او وئیل، مفتی صاحب او وئیل 86 سال۔

مفتی کفایت اللہ: 66 سال دے جی۔

وزیر قانون: چھ چھ دے۔۔۔۔۔

Mr. Speaker: Is it the desire of the House that the Question, asked by the honourable Member, may be referred to the concerned Committee? Those who are in favour of it may say 'Yes'.

Members: Yes.

Mr. Speaker: Those who are against it may say 'No'.

Members: No.

(The motion was carried)

Mr. Speaker: The 'Ayes' have it. The Question is referred to the concerned Committee.

(Applause)

جناب سپیکر: نور سحر صاحبہ، کونسیجین۔۔۔۔۔

محترمہ نور سحر: کونسیجین نمبر 61۔

میاں افتخار حسین (وزیر اطلاعات): سر، زمونہ طرف نہ دا Oppose شویدے نو بیا تاسو

خنکہ۔۔۔۔۔

محترمہ نور سحر: سر، یورولنگ راغے سر، بس خبرہ ختمہ شوہ کنہ۔۔۔۔۔

(شور)

محترمہ نور سحر: سر چے رولنگ راغے بس مسئلہ ختمہ شوہ کنہ۔۔۔۔۔

(شور)

جناب سپیکر: نہ تاسو وٺي خبري خپلو کښي کوي او د 'Yes' آواز صحيح رانغے۔

(شور)

محترمہ نور سحر: سر، په دې باندې رولنگ راغے نو بس سر مسئلہ ختمه شو۔۔۔۔۔

(شور)

Mr. Speaker: Those who are in favour of it may stand up, please.

آپ کاؤنٹ ہو گئے۔ بابک صاحب! آپ کاؤنٹ ہو گئے ہیں۔ (تہقہ) جو اس کولسچن کو کمیٹی کوريفر کرنے پر متفق ہیں، وہ کھڑے ہو جائیں۔

محترمہ نور سحر: سر، د رولنگ نہ پس سر دا زیاتے دے سر۔۔۔۔۔

جناب سپیکر: دا د سپیکر Prerogative دے، دا ستا نہ دے۔۔۔۔۔

(شور)

Mr. Speaker: Count down, please.

(Counting was carried)

Mr. Speaker: Those who are against it, they may stand up. Count down, please.

(Counting was carried)

(The motion was defeated)

Mr. Speaker: 'Noes', the 'Noes' have it. (Applause) Noor Sahar Sahiba, again Question number?

محترمہ نور سحر: سر، 'سوری'، میں کولسچن 'موو' نہیں کرتی، 'سوری'۔

(اس مرحلہ پر محترمہ نور سحر، محترمہ شازیہ طہماس اور دیگر خواتین اراکین واک آوٹ کر گئیں)

جناب سپیکر: عظمیٰ خان، عظمیٰ خان۔ نور سحر صاحبہ واک آوٹ کر گئیں۔ عظمیٰ خان، آپ پلیز، آپ بھی شریک ہو گئیں؟ جی عظمیٰ خان، کولسچن نمبر؟

* 140 _ محترمہ عظمیٰ خان: کیا وزیر مواصلات و تعمیرات ازراہ کرم ارشاد فرمائیں گے کہ:

(الف) کیا یہ درست ہے کہ ضلع دیر پائیں میں تیمرگرہ سے منڈالوڑ کے مقام تک روڈ کو از سر نو تعمیر

کیا جا رہا ہے؛

(ب) اگر (الف) کا جواب اثبات میں ہو تو مذکورہ روڈ کی تعمیر پر کتنی لاگت آئے گی، نیز اس کی تعمیر کا کام

کب شروع ہوا ہے اور کب تک مکمل ہوگا، تفصیل فراہم کی جائے؟

جناب امیر حیدر خان (وزیر اعلیٰ) (جواب وزیر قانون نے پڑھا): (الف) جی ہاں، ضلع دیرپائیں میں تیمرگرہ سے منڈا تک روڈ کی از سر نو تعمیر سال 2008 میں شروع ہوئی اور سال 2010 میں مکمل ہو چکی ہے۔

(ب) جس پر مبلغ -/740.914 ملین روپے لاگت آئی ہے، نیز مذکورہ روڈ میں کسی قسم کا مرمتی کام نہیں ہو رہا ہے اور نہ اس کیلئے کوئی رقم مختص کی گئی ہے۔ اس روڈ کی لمبائی 20 کلومیٹر ہے اور بلیک ٹاپ کی چوڑائی 24 فٹ ہے جبکہ 6.5 فٹ چوڑے شولڈرز (پکے کنارے) دونوں اطراف ہیں۔

Mr. Speaker: Any supplementary?

محترمہ عظمیٰ خان: ایس سر۔ سر، یہ کونسیں جب میں نے جمع کرایا تھا تو اس نام اس میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی مرمتی کام نہیں ہو رہا لیکن سر، 2010 میں یہ روڈ Complete ہوا اور 2011ء میں اس پر مرمتی کام زور و شور سے شروع ہو گیا کیونکہ وہ روڈ چھ مہینے بعد ہی دوبارہ ٹوٹ گیا تھا۔ سپیکر صاحب، اسمیں لکھا ہے کہ انہوں نے 6.5 فٹ چوڑے شولڈرز بنائے ہیں۔ شولڈرز کا نام و نشان اس لئے نہیں ہے سپیکر صاحب، ہمارے ہاں تو پلاننگ نہیں ہوتی، ہم نے اس روڈ کا کئی سالوں سے انتظار کیا، روڈ تعمیر ہوا، ابھی فیڈرل گورنمنٹ نے وہاں سوئی گیس کا منصوبہ شروع کیا ہے۔۔۔۔۔

جناب سپیکر: یہ بی بی صاحبہ بول رہی ہیں، Kindly ذرا توجہ دیدیں۔ جی۔

محترمہ عظمیٰ خان: اب سر، وہاں پہلے نئے روڈ کو دوبارہ۔۔۔۔۔

جناب سپیکر: آپ کا سپلیمنٹری کونسیں؟

محترمہ عظمیٰ خان: سر، نئے روڈ کو دوبارہ توڑ پھوڑ کے وہاں پہلے Digging کی جا رہی ہے تو سر، ڈیپارٹمنٹ یہ بتائے گا کہ ابھی اس کیلئے کیا کریں گے، سوئی گیس پائپ لائن Install ہونے کے بعد کیا یہ روڈ اسی طرح دوبارہ چھوڑ دیا جائے گا؟

جناب سپیکر: جی مفتی جانان صاحب۔

مفتی سید جانان: زہ جی دا خبرہ کوم، دا سوال او جواب داسی عجیبہ غوندی دی۔ دا وائی جز (ب) کبھی، "اگر (الف) کا جواب اثبات میں ہو تو مذکورہ روڈ کی تعمیر پر کتنی لاگت آئے گی، نیز اس کی تعمیر کا کام کب شروع ہوا ہے اور کب تک مکمل ہوگا؟ دا ہغی کبھی جی دا لیکھی، جواب کبھی، جی ہاں، ضلع دیرپائیں میں تیمرگرہ تا منڈا روڈ کی از سر نو تعمیر سال 2008 میں شروع

ہوئی اور 2010 میں مکمل ہو چکی ہے جس پر مبلغ فلاں فلاں روپے لاگت آئی ہے، نیز مذکورہ روڈ میں کسی قسم کا مرمتی کام نہیں ہو رہا ہے اور نہ اس کیلئے کوئی رقم مختص کی گئی ہے۔ اس روڈ کی لمبائی 20 کلومیٹر ہے اور بلیک ٹاپ کی چوڑائی 24 فٹ ہے۔ لاندی جی دا وائی چہ ہیخ پیسہ ورتہ نہ دی مختص شوہی او برہ مطلب دا دے دا 740 ملین روپے ورتہ مختص شوہی دی، دا جواب خہ دغہ دے؟ زہ خو جی پہ دہی نہ پوہیہم۔

جناب سپیکر: مفتی نفایت اللہ صاحب۔

مفتی نفایت اللہ: دا جی تاسو (ب) وگورئی، دوئی وائی "اگر (الف) کا جواب اثبات میں ہوتو مذکورہ روڈ کی تعمیر پر کتنی لاگت آئے گی، نیز اس کی تعمیر کا کام کب شروع ہوا اور کب تک مکمل ہوگا؟" دوئی جواب کنبہی و رکوی چہی اس پر کسی قسم کا مرمتی کام نہیں ہو رہا۔ دہی وجہ خہ دہ جی؟ دہی وجہ دا دہ چہی وروستو عظمیٰ خان 141 نمبر سوال راروان دے او ہغہ سوال کنبہی ہغوی تپوس کوی چہی تیمرگرہ سے منڈا کے مقام تک روڈ پر مرمتی کام جاری ہے؟" دوئی ہغہی جواب پہ دیکنبہی مند لے دے جی او دواہرہ ئے Mix کری دی، It means چہی دوئی سنجیدہ نہ دی، دا جواب غلط دے، کم از کم دیکنبہی یو اخلاقی طور بانڈی پکار دہ چہی دا کم از کم کمیٹی تہ ولیبرئی۔

جناب سپیکر: آئرہیل لاء منسٹر صاحب۔ ہمایون خان، آپ اور قاضی صاحب بہت مدت بعد آئے ہیں، وہ سبیاں گئیں ہیں، ان کو راضی کر کے لے آئیں۔ قاضی اسد۔

جناب محمد ہمایون خان (وزیر خزانہ): د ہغوی خپل کاروو، ہغہی لہ تلہی دی جی۔

جناب سپیکر: جی۔

وزیر قانون: مہربانی جی۔ د عظمیٰ خان بی بی دا سوال دے، دا زما خیال دے دیر مخکنبہی راغلے وو، دا سوال۔ دا چہی کوم دے ایشین دیویلپمنٹ بینک خہ گرانٹ وو او دا این ایل سی جوہر کرے دے جی دا سرک او بیا این ایل سی چہی کوم دے۔۔۔۔

جناب سپیکر: قاضی صاحب! جائیں آپ اپنا کام کریں، یہ چھوڑ دیں یہ گپ شپ۔۔۔۔

(شور)

جناب سپیکر: جائیں جائیں، جائیں جلدی سے لے آئیں، اپنی۔۔۔۔

وزیر قانون: دا جی دا سرک چي کوم دے، دا د ایشین ڈیویلپمنٹ بینک گرانٹ و او بیا این ایل سی دا جوڑ کرے دے، نیشنل لاجسٹک سیل دا دغہ جوڑ کرے دے دا سرک او بلہ خبرہ دا دہ چي د هغوی چي کوم Terms of reference چي وی نو مرمت یو کال پورې چي کوم دے، هغه د هغوی پہ دغہ کبني راخی نو Initially دیکبني خه لږ ډیر دغہ وو خو هغه تهیک شوی دی۔ دا اوس چونکه نوې دوی یوه خبره وکره چي یره سوئی گیس دغلته چرته خواؤ شا کبني به تله وی، د هغه د لاسه که خه دغہ شومے وی نوسی ایند ډبلیو والا افسران صاحبان شته، هغوی سره به زه کبني خکه چي دا فریش انفارمیشن دوی او غوبنتل او باقی خو دا دغہ دے چي دا روډ Complete دے، داسي دیکبني مطلب دا دے چي خه پرا بلم نشته۔

جناب سپیکر: Maintenance / repair کار نه دے شروع؟

مفتي سيد جانان: سپیکر صاحب! هلته هيخ کار شروع نه دے، نه ئے کار شروع دے، نه ئے مرمت شروع دے او بره دیکبني چي 2008 کبني شروع دے او 2010 کبني مکمل شومے دے او 740 ملین روپي ور باندي لگيدلي دی۔

وزیر قانون: دا زه نه پوهيم چي دا دوی د کوم خائي نه وائي خکه چي ماسره چي کوم جواب دے جی۔۔۔۔

مفتي سيد جانان: دا ته سوال راوړه، سوال راوړه بيا به دي ته۔۔۔۔۔

وزیر قانون: سوال ما راوړلے دے جی، تاسو کوم یو سوال دے، 140 دے؟ تاسو کوم یو سوال دے؟

Mr. Speaker: 140, 140, one four zero.

وزیر قانون: 140 کبني جی سوال دا دے: "ضلع دیرپائیں میں تیمرگره سے منڈالور کے مقام تک روڈ کو از سر نو تعمیر کیا جا رہا ہے؟" جواب: "جی ہاں، ضلع دیرپائیں میں تیمرگره سے منڈالور تک روڈ کی از سر نو تعمیر سال 2008 میں شروع ہوئی اور سال 2010 میں مکمل ہو چکی ہے۔" نو دا خبره مونږ کوؤ چي بهی دا 2010 کبني Complete شومے دے، دیکبني خه لږ ډیر شروع کبني پرا بلمز وو، هغه دي جواب کبني نشته، هغه این ایل سی والا کلیئر کړی دی او داسي خه ایشو نشته۔

جانبی ہدایت اللہ خان (وزیر امور حیوانات و امداد باہمی): جناب سپیکر!

جناب سپیکر: جی آزیبل ہدایت اللہ خان، جی یہ آپ کے حلقے میں ہے؟

وزیر امور حیوانات و امداد باہمی: مہربانی سپیکر صاحب۔ دا جی د دہی نہ پورہ خبر نہ دی، دا سوال چہی دے زور دے، پیر مخکینہنی سوال دے۔ دا شروع شوے ہم دے، جوڑ شوے ہم دے اوس پرہی گا دی ہم چلیبری او ہغہ 24 فٹ خنگہ چہی دے، ورکے دے دا دے او دا خرچ چہی کوم لیکلے دے، دغہ پرہی تھیک راغلے دے، مرمت خو ہغہی کینہی بہ وے چہی خہ روڈ وراں وے، ہغوی لیکلی دی چہی پہ دیکینہی خہ مرمت کیری؟ دوئی جواب ورکے دے چہی 'جی نہیں'، تعمیر پکینہی کیری؟ نہ۔ ہغہ مکمل شوے دے، د 2008 نہ 2010 پورہ کار شوے دے۔

جناب سپیکر: دا ستاسو حلقہ دہ؟

وزیر امور حیوانات و امداد باہمی: دا زما حلقہ دہ د خاص تیمر گرہ نہ مندا پورہ جی۔

Mr. Speaker: Ji. Next Question, Uzma Khan?

Ms. Uzma Khan: Sir, 141.

جناب سپیکر: جی۔

* 141 محترمہ عظمیٰ خان: کیا وزیر مواصلات و تعمیرات ازراہ کرم ارشاد فرمائیں گے کہ:

(الف) ضلع دیرپائیں میں تیمر گرہ سے منڈا کے مقام تک روڈ پر مرمتی کام جاری ہے؛

(ب) اگر (الف) کا جواب اثبات میں ہو تو مذکورہ روڈ کی مرمت پر کل کتنا خرچہ آئے گا، نیز کتنے عرصہ میں مرمتی کام مکمل ہوگا، مکمل تفصیل فراہم کی جائے؟

جناب امیر حیدر خان (وزیر اعلیٰ) (جواب وزیر قانون نے پڑھا): (الف) جی نہیں۔

(ب) ضلع دیرپائیں میں تیمر گرہ سے منڈا کے مقام تک روڈ پر کسی قسم کا مرمتی کام شروع نہیں ہوا ہے، روڈ کی لمبائی 20 کلومیٹر ہے اور چوڑائی 24 فٹ ہے۔

محترمہ عظمیٰ خان: تھینک یو، سپیکر صاحب۔

Mr. Speaker: Same Question.

محترمہ عظمیٰ خان: سر، ایک منٹ، میں تھوڑی ڈیٹیل دینا چاہوں گی۔

جناب سپیکر: جی بی بی۔

محترمہ عظمیٰ حان: سر، یہ کونسی کسچین میرے پاس جو کاپی ہے، یہ میں نے دسمبر میں جمع کرایا ہے اور سر جنوری میں اس کا Answer آیا ہے، یہ فریش کونسی کسچین ہے اور یہ روڈ کے مکمل تعمیر ہونے کے بعد میں نے جمع کرایا تھا، تعمیر ہوتے ہی اس میں مرمت شروع ہو گئی تھی لیکن اب اس کا کوئی فائدہ اس لئے نہیں ہوگا کہ آدھا روڈ ابھی بند ہے، وہاں پہ گیس کی Installation ہو رہی ہے اور پائپس Install کئے جا رہے ہیں تو Digging کی وجہ سے آدھا روڈ دوبارہ خراب کر کے بند کر دیا گیا ہے تو اس لئے سر، اب اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں رہا۔

جناب سپیکر: ہدایت اللہ خان، آپ کچھ۔۔۔۔۔

وزیر امور حیوانات و امداد باہمی: سپیکر صاحب، دا مرمت شو جی او دغہ شو جی تیار شو نو پہ دیکھنی لڑ خایونہ داسی وو چھی ہغہ و خت کبھی حالات خراب شوئی وو جی، لاء اینڈ آرڈر مسئلہ وہ نو ہغہ کار صحیح نہ وو شوے۔ بعضی خایونو کبھی بیا سی ایم صاحب تہ جی ما یو درخواست ور کرو، پہ ہغی درخواست باندی ہغوی کارروائی و کرہ، سی اینڈ ڈبلیو پہ ہغی کبھی نوے مرمت او ہغہ و کرو جی۔ کوم خائی کبھی کار وو، ہغہ ورتہ مونر نشاندھی و کرہ، ہغہ ئے پورہ کرو۔ اوس چھی د گیس کومہ خبرہ کوی جی، د گیس پہ سائڈ نو باندی دغہ شوے دے خو ہغہ تھیکیدار او د گیس والا مینخ کبھی خہ مسئلہ راغلی دہ نو ہغہ پائونہ ہغوی جوائنٹ کری ہم دی، تیار دی۔ اوس دا پتول چھی کوم وو نو ہغہ واپس نہ دی پت کری نو ہغہ باجری چھی کوم دہ، کھدائی والا دہ نو ہغہ لڑہ پہ روڈ باندی پراتہ دہ، پہ ہغی باندی مونرڈی سی او صاحب سرہ پرون خبرہ شوئی دہ او نن ہغہ محکمہ والا دواہرہ فریقین راغبنتی دی نو ان شاء اللہ چھی سبنا نہ بہ ہغہ بندول شروع شی لہ خیرہ، ان شاء اللہ۔

جناب سپیکر: شکریہ جی۔ مفتی ثنائیت اللہ صاحب! مفتی ثنائیت اللہ صاحب، کونسی نمبر 154۔

مفتی ثنائیت اللہ: میں تو ریگولر کرونگا کہ اس کو پینڈنگ کر دیں۔

جناب سپیکر: نہیں ہیں، وہ وزیر صاحب؟

مفتی ثنائیت اللہ: اس میں میری تیاری پوری نہیں ہے، میں نے کہا ایجنڈا اٹھایا ہے اور سر، محنت بہت زیادہ ہوئی ہے اور مسئلہ بھی بہت اہم ہے تو اگر یہ کسی اور موقع پر آجائے، آپ کی مہربانی ہوگی اگر پینڈنگ ہو جائے۔

جناب سپیکر: اوچی پینڈنگ شی، بیا راشی تاسو بیا بہ خبرہ کوئی؟
مفتی کفایت اللہ: اوچی پینڈنگ شی، زما پکبندی خہ خاص خبری دی کنہ نو ہغہ بہ
 اوس مانہ خرابی شی۔

جناب سپیکر: (تہنہ) چلیں پینڈنگ کرتے ہیں۔
مفتی کفایت اللہ: شکریہ جی۔

جناب سپیکر: آخری دن ہے، ہم بھی ذرا کھلے دل سے، ورنہ اور بھی، نور سحر صاحبہ آگئیں؟

اراکین کی رخصت

جناب سپیکر: ان معزز اراکین نے چھٹی کیلئے درخواستیں ارسال کی ہیں، جن میں: واجد علی خان-11-01-2013، رحیم داد خان 11-01-2013، میاں نثار گل صاحب 11-01-2013، حافظ اختر علی صاحب 11-01-2013، حاجی قلندر خان لودھی صاحب 11-01-2013، حیدر علی خان صاحب 11-01-2013، سید محمد علی شاہ باچا 11-01-2013، قاضی صاحب! خالی آئے ہو؟ اچھا آگئی ہیں بی بی ساتھ؟ چلیں۔

اراکین: کونسچن نمبر 61 کا کیا ہوگا؟

جناب سپیکر: وہ نوٹس دیدیں، پھر بعد میں بات کریں گے۔ محمد جاوید عباسی صاحب 11-01-2013، ثناء اللہ خان میانخیل، سکندر حیات خان شیرپاؤ صاحب اور پرویز احمد خان صاحب 11-01-2013
 Is it the desire of the House that the leave may be granted?
 (The motion was carried)

Mr. Speaker: The leave is granted. کیا ہوا ہے؟

قاضی محمد اسد خان (وزیر برائے اعلیٰ تعلیم): شکریہ سر۔ آپ نے جو مجھے ڈیوٹی دی تھی، وہ نور سحر بی بی، ایم پی اے صاحبہ کو میں نے ریکویسٹ کی ہے، میرے ساتھ میری بہن دوسری بھی گئی تھیں اور انہوں نے ان کے ساتھ نگہت اور کزئی صاحبہ ہیں، شازیہ طہماس صاحبہ ہیں اور ہماری ایک اور ایم پی اے صاحبہ ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم واپس آجائیں گی، جو بائیکاٹ ہم نے کیا ہے، واک آؤٹ کیا ہے لیکن ہمیں کونسچن نمبر 61 پہ ڈیٹیل میں بحث کرنے کی اجازت دیا جائے۔

جناب سپیکر: تو نوٹس دے دیں نا، Written notice دیدیں، بالکل بحث کریں، پھر اگلے ہی دن۔۔۔
 وزیر برائے اعلیٰ تعلیم: ٹھیک ہے جی۔

جناب سپیکر کی جانب سے اعلان

جناب سپیکر: ودربزہ مفتی صاحب، داپکنہی بل خہ راغے یرہ۔ آج میں آپ کی توجہ ایک انتہائی اہم اور قومی فریضہ کی طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ کسی بھی ملک کو چلانے اور معاشی طور پر خوشحال بنانے کیلئے بروقت ٹیکس کی ادائیگی لازمی ہے اور اس کے بغیر کوئی بھی ملک ترقی نہیں کر سکتا، آپ کی سہولت کیلئے خیبر پختونخوا اسمبلی کی حدود کے اندر ایک ٹیکس کاؤنٹر کھولا گیا ہے جس میں محکمہ لینڈ ریونیو اینڈ انکم ٹیکس کے افسران و اہلکاران موجود ہوتے ہیں، کوئی بھی معزز ممبر ٹیکس ادائیگی، ٹیکس گوشوارے جمع کرنے کے سلسلے میں دقت محسوس کریں، آپ ٹیکس کاؤنٹر سے رجوع کر سکتے ہیں جہاں پر ان کو ہر قسم کی تکنیکی معاونت فراہم کی جائے گی۔ مزید برآں ریجنل ٹیکس آفس پشاور کے تمام افسران / اہلکاران کسی بھی قسم کی معاونت کیلئے ہمہ وقت موجود ہونگے۔ اس سلسلے میں چیف کمشنر ریجنل انکم ٹیکس آفس قیصر علی خان نے آج ٹیکس سہولیات مرکز واقع صوبائی اسمبلی کا دورہ کیا اور میرے ساتھ بھی ملاقات کی کہ ممبران معزز اراکین اسمبلی کیلئے مندرجہ بالا مرکز کھولا گیا ہے۔ انہوں نے مزید واضح کیا کہ نیشنل ٹیکس نمبر اور سالانہ گوشوارے جمع کرنے سے جہاں ملک و قوم کو فائدہ پہنچتا ہے۔۔۔۔۔

(اس مرحلہ پر خواتین اراکین اسمبلی واک آؤٹ ختم کر کے ایوان میں واپس تشریف لے آئیں)

(تالیاں)

جناب سپیکر: انہوں نے مزید واضح کیا کہ نیشنل ٹیکس نمبر اور سالانہ گوشوارے جمع کرنے سے جہاں ملک و قوم کو فائدہ پہنچتا ہے، وہاں پر یہ آپ لوگوں کیلئے بھی مفید ہیں کیونکہ اس سے آپ مستقبل میں کسی بھی تکلیف اور تکلیف دہ صورتحال سے بچ سکتے ہیں اور بحیثیت لیڈر آپ دیگر ٹیکس گزاروں کیلئے مشعل راہ بھی بن جائیں گے۔ جی قاضی صاحب، آپ کیا کہہ رہے تھے، قاضی اسد۔ وہ جرگہ والا تھا، کچھ بات کی ادھر اور پھر غائب ہو گئے، قاضی صاحب، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟

وزیر برائے اعلیٰ تعلیم: سر، وہ کہہ رہی ہیں کہ جی ہمارا، چونکہ ہم نے واک آؤٹ کیا تھا کوئٹہ نمبر 61 Lapse ہو گیا ہے تو اس کو Revive کر دیا جائے۔

جناب سپیکر: اس کو دوبارہ کل لے آئیں گے نا۔

Minister for Higher Education: Thank you, Sir.

جناب سپیکر: تو پرسوں جو اجلاس ہو گا، پھر دوبارہ لے آئیں گے۔

Minister for Higher Education: Thank you very much, Sir.

جناب سپیکر: جی مفتی کفایت اللہ صاحب۔

مفتی کفایت اللہ: شکریہ، جناب سپیکر۔ میں آپ کی توجہ صوابی کے حالات کی طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں، جہاں سات لوگ، این جی اوز والے، ان کو قتل کر دیا گیا تھا۔ اس کے بعد وہاں کوئی کریمینل لوگ ہیں اور وہ کریمینل لوگ وہاں لوگوں سے بھتہ مانگتے ہیں باقاعدہ، وہ جو کراچی کا مسئلہ ہے وہیہاں شروع ہو گیا ہے، وہ باقاعدہ پرچی پھینکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ نے اتنے پیسے دینے ہیں اور یا وہ Message کرتے ہیں، ٹیلیفون کرتے ہیں، حالانکہ یہ وہ لوگ قطعاً نہیں ہیں جو عام طور پر وہ جو وزیرستان میں یاد ہشت گردی، یہ وہ لوگ نہیں ہیں، یہ کریمینل لوگ ہیں، اب نیا تجربہ کرنا چاہتے ہیں، خدا نخواستہ یہ تجربہ کامیاب ہو گیا تو پورے صوبے میں کوئی آدمی بھی عزت سے نہیں رہ سکے گا۔ اب ان کے پاس موبائل نمبر بھی ہیں، آج 'مشرق' اخبار نے بہت بڑی سرخی لگائی ہے، لوگوں میں بہت زیادہ خوف و ہراس ہے، خواتین گھروں سے نکلنے کے قابل نہیں ہیں اور وہاں پر اتنا خوف ہے کہ لوگ اپنی زندگی خطرے میں محسوس کرتے ہیں۔ وہ کریمینل لوگ ہیں، اگر حکومت ان کو پکڑنا چاہے یا ان کو Press کرنا چاہے تو یہ وہ مسئلہ نہیں ہے جو لاینچل ہے اور نہیں ہو سکتا۔ میں حکومت سے گزارش کروں گا کہ ان کریمینل لوگوں کو یہیں سے پکڑیں اور یہیں ان کا قلع قمع کریں اس لئے کہ وہاں تو سب میری انتظامیہ کی طرف سے ہیں، وہ ان کو اور حوصلہ دیتی ہے، اگر وہ کامیاب ہو گئے تو پھر کوئی آدمی ادھر نہیں رہ سکے گا، میں Fully response چاہوں گا گورنمنٹ کی طرف سے۔

جناب سپیکر: جی آزیبل میاں افتخار حسین صاحب۔

میاں افتخار حسین (وزیر اطلاعات): ایسا ہے کہ مفتی صاحب نے جو کہا ہے، بالکل سنجیدہ مسئلہ ہے، اس حوالے سے سوشل ویلفیئر ڈیپارٹمنٹ سے ہم نے گزارش بھی کی ہے کہ ان تمام این جی اوز کے ساتھیوں کو بلایا جائے اور ان کے تحفظات کو بھی دیکھا جائے، کیا تکلیف ہے اور کس طریقے سے رفع کی جاسکتی ہے؟ رہی یہ بات کہ یہ 'کریمینلز' ہیں، ہاں بالکل لوکل 'کریمینلز'، اس میں شامل ضرور ہیں لیکن ایسا نہیں ہے کہ ان کی پشت پہ دہشت گردوں کا ہاتھ نہیں ہے اور ہمارے ہاں چونکہ میں معذرت سے کہوں گا کہ 'کریمینلز' اتنے کبھی مضبوط نہیں ہوا کرتے، ان کو پکڑنا بھی بڑا آسان ہوتا ہے اور ان کو سزا دینا بھی بڑا آسان ہوتا ہے لیکن جب ان کے پیچھے ایک قوت جو دہشت گردی کے حوالے سے کار فرما ہے، ان کو پکڑنا بڑا مشکل ہے اور ان کا نیٹ ورک کافی بڑا ہوتا ہے اور ان کو Own کرنے والے لوگ بھی وہاں پہ موجود ہیں

لیکن بالکل میں مفتی صاحب سے یہ بات ضرور Agree کرونگا کہ چاہے کوئی بھی ہو اگر ایف آئی آر میں اس کو بالکل Nominate کیا گیا ہے، وہ لوگ بھی معلوم ہیں، ایف آئی آر میں درج بھی ہیں تو کیوں نہ ان کو جلد سے جلد پکڑا جائے؟ چاہے کوئی بھی ہو، اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں کہ چھ فیملیوں کو انہوں نے شہید کیا اور ایک میل کو وہاں پہ شہید کیا، صوابی میں خصوصی طور پر ایک ڈر کا ساما حول ہے اور وہاں پہ این جی اوز کے لوگ بھی ڈر محسوس کر رہے ہیں اور لازمی طور پر انہوں نے کیا بھی اس لئے ہے، میں نے از خود وہاں پہ ڈی پی او سے رابطہ کیا ہے اور میں نے ڈی سی او سے بھی رابطہ کیا ہے، ایف آئی آر درج کرتے وقت بھی ہم نے ان کو ہدایت جاری کی تھی کہ جلد سے جلد ایف آئی آر درج کی جائے اور یہ ایک Tested case ضرور ہے، اگر صوابی میں اس کا قلع قمع نہ کیا گیا تو پھر یہ اور اضلاع میں ضرور پھیلے گا اور این جی اوز کے حوالے سے کل بھی اور آج بھی اخبارات میں ایک بات چھپی ہے جناب سپیکر صاحب، ہم نے وہی سلوک جو کہ ایک دہشت گردی کے حوالے سے لوگ شہید ہوتے ہیں، ہمیں اسی طریقے سے ان کو Treat کرنا چاہیے۔ ان کا این جی اوز سے تعلق ہو کچھ بھی ہو وہ شہید ہوئے ہیں، وہ غریب ہیں اور وہ جناب سپیکر صاحب، آپ کو اندازہ نہیں کہ ضرورت سے زیادہ غریب ہیں جو اس واقعے میں شہید ہوئے ہیں، اس سے قبل ہمارے جو پولیو کے ورکرز تھے، وہ بھی نہایت ہی غربت کے حوالے سے یہ کام کر رہے تھے اور این جی اوز کے ساتھی بھی آپ اندازہ کریں کہ آپ انکے گھر میں جائیں تو شاید پھر آپ خود رو پڑیں گے ان کی حالت کو دیکھ کر، لہذا ہم نے یہ بھی ایک فیصلہ کیا ہے جس طرح پولیو کے جو Victims تھے، ان کیلئے ہم نے سروس کی بھی بات کی کہ ان کو مالی طور پر بھی Compensate کیا جائے گا اور یقیناً ان این جی اوز کے ساتھیوں کو مالی طور پر بھی Compensate کیا جائے گا اور ان کے گھر کا کوئی فرد ملازمت کے قابل ہو تو اس کو ملازمت بھی دی جائے گی اور ان لوگوں کو پکڑا جائے گا جو اس میں ملوث تھے اور ان کو قرار واقعی سزا دی جائے گی اور ابھی سے میں آپ کے سامنے ہی تمام ڈیپارٹمنٹس کو احکامات جاری کرتا ہوں کہ اگر اس میں ابھی تک کوئی قابل ذکر پیش رفت نہیں ہوئی تو رات دن ایک کر کے پیش رفت کی جائے، ان متاثرہ لوگوں کی حوصلہ افزائی بھی کی جائے اور سیکورٹی کے حوالے سے جب ہم اجلاس کریں گے، سوشل ویلفیئر کی جو یہاں پہ منسٹر صاحبہ بیٹھی ہیں تو ان کی نگرانی میں ان کی جو بھی ضروریات ہوں گی، یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ہم پوری کریں اور ان کو تحفظ فراہم کریں۔ بڑی مہربانی، شکریہ۔

تحریر استحقاق

Mr. Speaker: Mr. Khushdil Khan, honourable Deputy Speaker, to please move his privilege motion No. 199 in the House.

Mr. Khushdil Khan Advocate (Deputy Speaker): Thank you, Mr. Speaker. On 7th January, 2013 Mr. Mohib Ali Shah, D.G Agriculture Engineering was contacted in connection with some official business. Mr. Ihsan his P.A. told that he had proceeded for a meeting with Secretary Agriculture at his office. When the Secretary Agriculture was contacted, his PA told that he was on his way to the office, however, there was no such meeting, which negated the statement of P.A. to D.G. Then I personally contacted the office of D.G, Agriculture Engineering. Mr. Rifaqat, one of the officials in the said office, attended the phone, who was asked the where about of the D.G, Agriculture Engineering, who told that he had a meeting with the Secretary Finance. When enquired from the office of the Secretary Finance, it was told that there was no such meeting. Then I personally contacted the D.G Agriculture Engineering on mobile, his cellular number was on but he did not pick up the phone. Such kind of attitude and behavior on their part is tantamount to the breach of privilege of mine as well as of this entire House.-----

جناب سپیکر صاحب! مونرہ تقریباً بلکہ زمونرہ پینخہ کالہ Complete

کیری، دوه میاشتی پاتی شوہی پہ دہی دوران کبھی، زہ رشتیا خبرہ دا دہ چہی
خومرہ زمونرہ آفیسرز زمونرہ شاتہ ناست دی، ہغہ د چیف سیکرٹری نہ واخلدہ د
Attached Department Heads دی، تراوسہ پورہی چہی خومرہ پورہی ما ذاتی
طور بانڈی ہغوی سرہ ملاقاتونہ کری دی، کہ ما تیلیفون کرے دے، کہ ہغوی تہ
تائم Available نہ وی، ہغوی Call back کوی او خامخا مونرہ نہ تپوس کوی
چہی آیا د اسمبلی بزنس بارہ کبھی تاسو تیلیفون کرے وو، آیا دا ستاسو خپل
Developmental works بارہ کبھی کرے وو۔ واحد دا یو داسی ایکسپینڈنٹ ما
سرہ وشو چہی نہ دوی Call back بیا وکرو، نہ ئے مطلب دے چہی دروغ ئے
اووئیل، مطلب دا دے اول وائی چہی زما ایگریکلچرل سیکرٹری سرہ میتینگ دے
When I contacted the Secretary ہغہ اووئیل چہی دا میتینگ ہدو شتہ دے نہ۔
بیا چہی ما د ہغہ پی ایس ملاؤ کرو نو ہغوی وئیل چہی فنانس، چہی ما فنانس

دیپارٹمنٹ Contact کرو نو ہغوی اووٹیل چپی No such meeting، لہذا زما
 دا یو ریکویسٹ دے ہاؤس تہ ہم او تاسو تہ ہم دے چپی دا Concerned
 Committee تہ ریفر کړی چپی ہلتہ ئے مونبرہ Thrash out کړو۔ دیرہ مہربانی۔
 جناب سپیکر: آنریبل لاء مسٹر صاحب۔

بیرسٹرارشد عبداللہ (وزیر قانون): مونبرہ تہ اعتراض نشتہ، بالکل کمیٹی تہ د لا رشی۔
 Mr. Speaker: Is it the desire of the House that the privilege motion,
 moved by the honourable Deputy Speaker, may be referred to the
 concerned Committee? Those who are in favour of it may say 'Yes'
 and those against it may say 'No'.

(The motion was carried)

Mr. Speaker: The 'Ayes' have it, the privilege motion is referred to
 the concerned Committee.

محترمہ شازیہ اورنگزیب خان: جناب سپیکر!

جناب سپیکر: ایک منٹ جی۔

محترمہ شازیہ اورنگزیب خان: سپیکر صاحب!

جناب سپیکر: مسٹر تاج محمد خان۔ ایک منٹ، یہ ختم ہو جائے، بس آپ کا ہاؤس ہے پھر جو۔۔۔۔۔

محترمہ گلت یا سمین اور کزئی: سپیکر صاحب! سپیکر صاحب۔۔۔۔۔

جناب سپیکر: خیر خدا یا۔ جی۔

محترمہ گلت یا سمین اور کزئی: جناب سپیکر صاحب، مونبرہ لہ لبرہ موقع را کړی، مونبرہ
 ہم خبرہ کول غوارو۔

جناب سپیکر: تھیک شوہ، تھیک شوہ، بس یو دوہ منتہ، ما لہ یولس منتہ را کړی۔

Taj Muhammad Khan Tarand and Shah Hussain, to please move
 their joint privilege motion No. 200.

جناب تاج محمد خان ترند: زہ بہ وایمہ جی۔

جناب سپیکر: بس آپ، ایک پڑھیں، وہ آپ کا ماموں انتظار کریگا۔

جناب تاج محمد خان ترند: صحیح دہ جی۔ شکریہ جناب سپیکر۔ جناب سپیکر، بگرام کے رہائشی ایس

ایس پی، پینٹل براؤن، محمد ریاض خان نے بگرام میں ایک عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے ہم پر

الزامات لگائے ہیں کہ بنگرام کے ممبران اسمبلی نے حکومت سے اربوں روپے ترقیاتی فنڈز لیکر کام نہیں کیا بلکہ اپنی جیبوں میں ڈالے ہیں اور الیکشن جیتنے کے بعد علاقے سے غائب ہو گئے ہیں۔ جناب سپیکر، اس کی یہ تقریر مورخہ یکم جنوری کے روزنامہ 'محاسب' ایبٹ آباد اور دیگر اخبارات میں نمایاں سرخی کے ساتھ شائع ہو چکی ہے، جس کی کاپی لف ہے۔ ان بے بنیاد اور من گھڑت الزامات کی وجہ سے ہمیں ذہنی تکلیف پہنچی اور عوام کے سامنے ہماری ساکھ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ محمد ریاض خان ایک ذمہ دار پوسٹ پر پولیس ڈیپارٹمنٹ میں بطور آفیسر کام کر رہا ہے اور اس کے اس فعل سے نہ صرف ہمارا بلکہ اس پورے معزز ایوان کا استحقاق مجروح ہوا ہے، لہذا اس تحریک کو استحقاق کمیٹی کے حوالے کیا جائے۔

جناب سپیکر: جی بس ہغہ او وٹیلو نو تا سو۔

جناب شاہ حسین خان: تھیک شو جی۔

جناب سپیکر: جی آزیبل لاء منسٹر صاحب۔

وزیر قانون: بس جی مونر، خو خپل ورونو سرہ ولا ریو، خنگہ چہ دوئی وائی، ہغہ شان بہ کوؤ۔

(تالیاں)

Mr. Speaker: Is it the desire of the House that the privilege motion, moved by the honourable Members, may be referred to the concerned Committee? Those who are in favour of it may say 'Yes' and those against it may say 'No'.

(The motion was carried)

Mr. Speaker: The 'Ayes' have it. The privilege motion is referred to the concerned Committee.

تحریک التواء

Mr. Speaker: Ateef-ur-Rehman, to please move his adjournment motion No. 347.

جناب عطیف الرحمان: ڊیرہ مہربانی، سپیکر صاحب۔ جناب سپیکر، ایوان کی کارروائی روک کر اس اہم اور فوری نوعیت کے مسئلے پر بحث کی اجازت دی جائے، وہ یہ کہ گزشتہ کافی دنوں سے ایک طرف پشاور اور نواحی علاقوں میں روزانہ اٹھارہ تا بیس گھنٹے بجلی کی لوڈ شیڈنگ کی جارہی ہے تو دوسری طرف گیس کی لوڈ شیڈنگ اور کم پریشر کا سلسلہ بھی موسم سرما کے شروع ہونے کے ساتھ ساتھ جاری ہے، جس سے

نہ صرف گھریلو خواتین، طلباء و طالبات اور عام لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے بلکہ تاجروں اور دکانداروں کا کاروبار بھی تباہی کے دہانے پر پہنچ چکا ہے۔

جناب سپیکر صاحب، دا جی مونر۔ ہغہ تیرہ ورخ ہم پہ دہی خائپ باندہی خبرہ کری وہ او ما پری نن تحریک التواء ہم راو پری دہ۔ سپیکر صاحب، تقریباً دا خو ورخی وشوہی چہی دلته کبہی زمونرہ پہ دہی علاقو کبہی خاصکر زمونرہ دہی پیسنور کبہی چہی یو طرف تہ زمونرہ د دہی صوبہی دارالخلافتہ دہ او بل زمونرہ دا صوبہ جی د دہی دہشت گردی دومرہ زیاتہ بنکار شوہی دہ چہی ہر سرے خپلے شوے دے او بل طرف تہ بجلی والا چہی کوم یو لوئے لعنت را بنکتہ کرے دے چہی یرہ پہ گھنتو گھنتو باندہی زمونرہ پہ دہی علاقو کبہی بجلی نہ وی۔ سپیکر صاحب، دہی سرہ سرہ زمونرہ پہ علاقو کبہی پہ غلاگانو کبہی ہم یرہ زیاتہ اضافہ شوہی دہ، خائپ پہ خائپ باندہی چہی وگورئ تاسو نو ترانسفارمری کوزیری، اکثر خلق دا وائی چہی یرہ بجلی تلہی دہ نو دا یو یر لوئے Loss دے او یر لوئے نقصان دے مونر۔ تہ۔ سپیکر صاحب، زمونرہ د پارٹی مشرانو دا خبرہ مخکبہی ہم کری دہ، د اتلسم ترمیم نہ ورا ندہی چہی یرہ دا بجلی چہی کومہ دہ، دا پیسکو چہی کومہ دہ، دا د زمونرہ صوبہی تہ حوالہ کری شی، دا یو صوبائی دغہ دے او چونکہ زمونرہ دا صوبہ د ٲولو نہ زیاتہ بجلی پیدا کوی او د ٲولو نہ زیات لوڈ شیڈنگ چہی کوم دے پہ مونر۔ خلقو باندہی کوی۔ سپیکر صاحب، د ٲولو نہ ارزانہ بجلی چہی کومہ دہ مونرہ پیدا کوؤ، پہ او بو باندہی بجلی پیدا کیری او د ٲولو نہ زیاتہ گرانہ چہی کومہ دہ نو دا بجلی دوئ مونر باندہی خرخوی او د ہغہی باوجود بجلی نہ ملاویری۔ سپیکر صاحب، زما دا گزارش دے چہی مہربانی د وکرے شی، دا زمونرہ یو آئینی او قانونی حق ہم جو ریری او آئینی حق پہ دہی چہی چرتہ یو خیز پیدا کیری نو پکار دا دہ چہی اول د د ہغہی علاقہی خلق د ہغہی نہ مستفید کیری او د ہغہی نہ علاوہ د بیا نورو صوبو تہ دا، پہ نورو صوبو د دا خیز خرخولے کیری، نورو صوبو تہ د دا ورکوی۔ سپیکر صاحب، زمونرہ مرکزی حکومت Totally پہ دہی خیز کبہی نا کامہ شوے دے او بالکل لکہ ہیخ قسم توجہ ئے دہی طرف تہ نہ دہ ورکری، تاسو وگورئ پہ دہی غونہ پاکستان کبہی لکہ دا یو یر لوئے لعنت مونر باندہی راغلے دے نو مہربانی د وکرے شی د دہی عذاب

نه د مونږ خلاص کړی۔ تاسو کتلی وو چې په تیره گرمی کبني سپيکر صاحب، يو ډير لږ لږ لعنت وو او ډير لويه تباهي شوې وه۔ ټول قوم په سر کونو باندې راوتے وو، ځانې په ځانې باندې، موټرو به بلاک وه، د پيښور څومره Surrounding سر کونه چې وو، دا به د بجلی د وچې نه بلاک وو۔ سپيکر صاحب، اوس خو موسم بڼه دے خو ورپسې گرمی راروانه ده، که چرې دا حالات داسې وی نو زما دا يقين دے چې دا بجلی والا په يو ډير منظم سازش سره دا زمونږه دا صوبه وړانوی نو مهرباني د وکړې شي چې ددې د مخ نيوي وکړے شي او که چرې داسې نه وی نو دا خلق به اشتعال کبني راشي او ډير لږ لږ مصيبت به مونږ ته جوړ شي، نو مهرباني د وکړے شي په دې باندې د تفصیلی خبرې وکړې شي چې دا مسئله فوری طور باندې حل شي جي۔

جناب سپيکر: جی آر ټیبل لاءِ منسټر صاحب۔

وزیر قانون: دا جی هسې Deal کوی خو زمونږه سینیئر منسټر صاحب خو هغوی نن موجود نه دی نو ماته ډيپارټمنټ بیا ریکویسټ کړے وو چې یره جواب ددې ورکړو او دا خود ټول ملک مسئله ده دې وخت کبني او ټول ملک کبني دغه مشکلات دی۔ په دې حقله تاسو يو ميټنگ زما خیال دے راغوبنتے هم وو، مخکبني هم چيف ايگزيکټيو صاحب تاسو راغوبنتے وو نو داسې لکه دې وخت کبني جنريشن پرابلم دے، ملک کبني دومره نه سوئی گيس شته نه دومره بجلی شته خو بهر حال چې کوم لوډ شيډنگ ټائمنگز دی چې هغه Declared timings وی او لکه دغه شان يو Arrangement د پاره زه به د ریکویسټ کوم چې ستاسو مشرئ کبني سوئی گيس والا جی ایم صاحب هم رااوغوارئ او بجلی والا دغه هم رااوغوارئ مشر، او دلته دې ایم پی اے گانو سره کبيني او څه لاره دې له رااوباسئ جي۔

جناب سپيکر: جی میاں افتخار صاحب۔

وزیر اطلاعات: یره جی دا خبره خو ډيره زړه شوه او دا څو څو څله دوئ مونږ رااوغوبنتل او دا خبره بار بار رااوچتيري، داسې یو لار چې هغه مطلب مونږ ته څوک او بنائئ چې د دې حل به څه وی؟ دا ميټنگ به بیا اوشی او بیا خدائے خبر چې د اسمبلی زمونږ به وخت څومره وی؟ لکه چې بیا به مود واپدې سره اخري يو

میتنگ وی او هغوی ته به مونږ او وایو، راته به خوږې خبرې وکړی، زه خپل ځانی داسې محسوسوم چې د موجوده چیف د راتلو سره مشکلات سیوا شوی دی۔ دا د هاؤس دا ممبران ټول د په دې خبره سوچ وکړی چې که د واپدې خپل مشکل خو شته، د بجلی د کمی مسئله شته، دا نه په دم باندې تهپیک کیږی او نه په چوف باندې تهپیک کیږی، خو چې د دې نه مخکې مینجمنټ په گرمی کبني هم گزاره کوله، د یخنی په موسم کبني څنگه گزاره نه کوی؟ لهدا دا خبره په ځانې د دې چې دا فلانکے څوک دے او ډینگرے څوک دے؟ یو سرے بنه دے او که خراب دے خو چې زما د دې صوبې مسئله حل کوی، هغه بنه دے او چې کوم سرې سره مسئله زیاتیري، هغه خراب دے۔ نو په دې بنیاد که داسې یو خبره کیدې شی چې کوم سرے صوبې له تکلیف ورکوی نو دا په کوم بنیاد باندې دلته ناست دے؟ اخر د دې صوبې نه تپوس، Suffer کیږو به مونږ، تکلیف به مونږ خلقو ته وی او خبره به خلق وائی چې حکومت د مسئله حل کړی او یو سرے به ناست وی، هغه به د حکومت نه هم بالاتر وی، هغه به نه د حکومت خبره اوری نه به د بل چا خبره اوری۔ که چارسده کبني غویمه شی، چارسدې والا خبره وکړی، هغوی ته وائی چې نن به نه کیږی، هلته تهپیک وی۔ چې پینور کبني دلته حالات خراب شی، غویمه شی، بیا وائی چې دلته به تهپیک وی۔ لکه چې دے تهپیک کول غواړی نو هغه تائم تهپیک شی او پکار دا ده چې دے د مخکې نه Arrangement وکړی، دا څه خبره ده چې دے به په 'ایدهاک ازم' باندې لگیا وی او وقتی طور به خلق خوشحالوی، لهدا په ځانې د دې چې مونږ د سیاست په انداز سوچ وکړو، د دې صوبې په مفادو کبني یو سوچ چې دلته هغه افسر پکار دے چې زما مسئله حل کولے شی چې د هغه خپل Interest پکبني نه وی، د هغه خپل مفاد نه وی، د عوامو په مفاد کبني چې کوم دے هغه فیصلې کوی، لهدا زه ډیر په وثوق سره وایم چې د دې نه مخکې چې هر څوک وو خو په گرمی کبني هم هغوی به داسې طریقہ خپلوله چې لږه ډیره به گزاره کیدله، اوس په یخنی کبني، ټول صورتحال قابو دے، د مینجمنټ په حساب باندې چې کوم دے نو صرف دا طریقہ نشی خپلولې چې خلق مطمئن کړی، لهدا مونږ د اسمبلی طرف نه په هغې باندې د عدم اعتماد اظهار کوؤ او د هغه راغوبنتل او بار بار کبني ناستل او هغه مونږ له لالی

پاپ راکوی، آخر دا دومره ذمہ وار خلق هر خل، هغه بله ورخ تاسو راغوبنتے وو، هغه بله ورخ موورته په کومو الفاظو کبني خبرې وکړې او هغوی هم هغه اووئیل چې خیر دے مونږ به ئے کوؤ او یو خل به ئے بیا هم اووائی، نو بنه دا نه ده چې مونږ دې مرکز ته د دې صوبې نه دا خبره وکړو چې هغه افسران چې هغه په دې ځانې کبني ناست دی او هغه Deliver کولے نشی نو د دې دا مطلب نه دے چې گني هغه به خامخا ناست وی، چې نشی Deliver کولے نو هغه نه دے پکار، چې څوک Deliver کولے شی، هغه پکار دے، که په دې لار باندې جی تاسو خپل رولنگ هم ورکړو او اسمبلئ طرف نه خبره وشوه نو دا به زیاته مناسب وی په ځانې د دې چې مونږ به ئے رااغواریو او خبرې کوؤ، یو متفقہ دغه په جوړ کړو نو هغه به ډیره بنه خبره وی جی۔

جناب سپیکر: پرائیویټ ممبرز دے، ده، راوړئ هر څه چې راوړئ۔ هس جی۔

وزیر اطلاعات: بنه جی۔

جناب سپیکر: نه اوس دا ایډجرنمنټ موشن څنگه نمتاؤ کړو؟ تاسو که ریزولیشن راوړئ نو چې زه د هاؤس نه بیا تپوس نه کومه، جوائنټ ریزولیشن راوړئ؟ زه دا ایډجرنمنټ موشن څنگه نمتاؤ کړم، ریزولیشن راوړئ چې دا هغې کبني Convert کړو؟

اراکین: او جی۔

وزیر اطلاعات: دا منظور کړئ او زمونږ دا کار به مونږه وکړو بی قیمتہ څکه چې هغوی له آزادی مه ورکوئ۔

جناب سپیکر: تهپیک شو، تهپیک شو۔ بیا به ئے ایډمټ کړو کنه۔

Is it the desire of the House that the adjournment motion, moved by the honourable Member, may be admitted for detailed discussion, under rule 73? Those who are in favour of it may say 'Yes' and those against it may say 'No'.

(The motion was carried)

Mr. Speaker: The 'Ayes' have it. The adjournment motion is admitted for detailed discussion under rule 73.

توجہ دلاؤ نوٹس ہا

Mr. Speaker: Abdul Sattar Khan, to please move his call attention notice No. 841.

جناب عبدالستار خان: تھینک یو، جناب سپیکر۔۔۔۔۔

جناب سپیکر: شارٹ شارٹ وہ کریں۔

جناب عبدالستار خان: جناب سپیکر، میں آپ کی توجہ ایک اہم مسئلے کی طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ ضلع کوہستان میں محکمہ تعلیم میں اساتذہ کی تقریروں کا عمل سست روی کا شکار ہے جس کی وجہ سے ضلع میں مختلف سکولوں کی تعلیمی حالت روبہ زوال ہو رہی ہے۔ حکومت اس سلسلے میں بھرتیوں کا عمل شروع کرے تاکہ ہمارے سکولز چل سکیں۔

جناب سپیکر: آنریبل منسٹر صاحب، سردار حسین بابک صاحب۔

جناب عبدالستار خان: جناب سپیکر، میں ایک چھوٹی۔۔۔۔۔

جناب سپیکر: نہیں، بس چھوٹی بھی نہیں، وہ سمجھتے ہیں، اردو میں آپ نے کہا انگریزی میں نہیں کہا، اگر انگریزی میں بھی کہا ہوتا تو بھی وہ سمجھ جاتے۔ جی۔

(توقفہ)

جناب سردار حسین (وزیر برائے ابتدائی و ثانوی تعلیم): تھینک یو، مسٹر سپیکر۔ سرجی۔۔۔۔۔

جناب سپیکر: کوہستانی میں کہتے تو پھر شاید۔۔۔۔۔

وزیر برائے ابتدائی تعلیم: عبدالستار خان، ہم نے توجہ دینے کی کوشش کی ہے اور جس طرح جہاں پر ذکر بھی ہوا ہے کہ جو فیملی ٹیچرز کی اپوائنٹمنٹ کیلئے ہم نے ایڈورٹائز کیا ہے اور انشاء اللہ بہت ہی جلد فیملی کی Recruitment پہ کام جاری ہے، باقی جو فیملی ٹیچرز ہیں، ان شاء اللہ اس کیلئے بہت ہی جلد ایڈورٹائز کر دیتے ہیں اور اس کو Expedite کر دیتے ہیں، ان شاء اللہ بہت ہی جلد۔

Mr. Speaker: Mufti Kifayatullah Sahib, to please move his call attention notice No. 844.

مفتی کفایت اللہ: شکریہ جناب سپیکر۔ میں آپ کی توجہ ایک اہم مسئلے کی طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ 15 اگست 2012 کو ضلع ٹانک سے آٹھ اہلکاروں کو اغوا کیا گیا، یہ اہلکار واپڈا کے تھے اور گول زام ڈیم پر کام کر رہے تھے، جہاں سے ان کو اغوا کیا گیا وہ Settled area یعنی ضلع ٹانک کا حصہ ہے ان معویوں کے نام مندرجہ ذیل ہیں: شاہد علی، شاہد اللہ، ٹانک۔ سجاد، ملاکنڈ، ذیشان، ملاکنڈ۔ لیاقت، ڈی آئی

خان۔ منیر، ڈمی آئی خان۔ سراج، ڈمی آئی خان اور مشتاق، کرک۔ چار ماہ گزر گئے ہیں، نہ ان معویوں کو بازیاب کرایا گیا اور نہ ہی یہ معلوم ہو سکا کہ وہ کس پوزیشن میں ہیں اور نہ ان کی رہائی کیلئے کوئی عملی سنجیدہ اقدامات اٹھائے گئے ہیں۔ ان معویوں کے اہلخانہ بہت پریشان ہیں، ان کی پریشانی کی خاطر حکومت سے مطالبہ ہے کہ ان افراد کی رہائی کیلئے عملی اقدام اٹھائے۔

جناب سپیکر: جی میاں افتخار۔

مفتی کفایت اللہ: دیکھنی یو مشکل دے جی۔

جناب سپیکر: کونسا؟ بس وشوہ جی۔

مفتی کفایت اللہ: نہ مشکل دے پکھنی یو، دا کسان دی، د واپدا کسان دی، وری ئے دی، د Settle area نہ تلی دی، ہلتہ فاتا تہ، ہلتہ واپدا بانڈی دوئی د پریشر و اچوی چہ ہغوی پیسہ غواری کنہ، دا د پیسولین دین دے نو پیسہ بہ واپدا ور کری او دوئی بہ پریشر و اچوی، کار بہ وشہ۔

جناب سپیکر: جی میاں افتخار صاحب۔

جناب اسرار اللہ خان گنڈاپور: سر، اس سلسلے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔

جناب سپیکر: ہں جی؟

میاں افتخار حسین (وزیر اطلاعات): ہغہ وائی زہ خبرہ کوم بیا د جواب را کری۔

جناب اسرار اللہ خان گنڈاپور: جی سر۔ سر، میری گزارش یہ ہے کہ جو انہوں نے کہا ہے، یہ بالکل حقیقت ہے، انہوں نے اس حوالے سے کیپ بھی لگائے ہیں اور جو مسئلہ مفتی صاحب نے بیان کیا ہے، وہ یہی ہے کہ وہ Ransom مانگ رہے ہیں، اغواء برائے تاوان کا مسئلہ ہے اور اس میں میری منسٹر صاحب سے یہ گزارش ہوگی کہ اس کو اگر آپ واپڈا کے یہاں پر جی ایم آج کل بیٹھتے ہیں، اگر ان کو بھی بلا لیں کہ فیڈرل گورنمنٹ کیا اقدامات کر رہی ہے اور صوبہ بھی اس حوالے سے جو بھی اپنی ذمہ داری ہے، محسوس کرے۔

جناب ثاقب اللہ خان چمکنی: جناب سپیکر، ما ہم یوہ خبرہ کولہ پہ دہ بانڈی۔

جناب سپیکر: ہم پہ دہ بانڈی؟

جناب ثاقب اللہ خان چمکنی: او جی۔

جناب سپیکر: کال اتنشن دے، پہ دے باندے بنہ پوہیری۔ ثاقب اللہ خان، ثاقب اللہ خان۔

جناب ثاقب اللہ خان چنگنی: ڊیره مہربانی جناب سپیکر صاحب۔ دا شے بار بار کیری، شپہر کسان ئے دغہ کری وو چے پہ ہغے کبھی دوہ زما د حلقے وو جی۔ بیا سر، ہغہ بارہ کبھی ہغوی سرہ Negotiation وشو او پہ ہغہ Negotiation باندے د واپدے خیل کسانو ہم او بیا پولیٹیکل ایجنٹ ہم ہغوی تہ دا خبرہ وکرہ چے یرہ تاسو پیسے ورکری، تاسو چے پیسے ورکری نو مونبرہ لہ بہ راشی مونبرہ بہ تاسو تہ Payment وکرو جی۔ سر، بیا ہغہ خبرہ وشوہ او ہغہ خبرہ د اہلکارو پہ لاس باندے وشوہ، د پولیٹیکل او انتظامی اہلکارو پہ لاس باندے وشوہ او دے غریب لائن میں سر چے پہ واپدے کبھی کار کوی او پہ دے دغہ کارونہ کوی، د ہغہ بہ خہ حیثیت وی؟ نو چم گاوند نہ ئے سر پیسے راغونڈے کری، قرضونہ ئے راواختل او ہغوی چے اووہ لکھہ وو کہ لس لکھہ وو اوس ما نہ ہغہ خبرہ، Per person ئے ورکری جی، ہغوی راخلاص شو جی۔ چے راخلاص شو سر، واپدے تہ کبھینا ستل چے بھے تاسو خو مونبرہ تہ دا ایشورنس را کرے وو، ستاسو خیل فنڈ ہم شتہ، دغہ مو شتہ دے او مونبرہ خو خہ خیل دغہ کبھی نہ خو، کار لہ تاسو لیبرلی وو او پہ کار کبھی مونبرہ شو۔ سر، ترنن ورخے پورے پولیٹیکل ایجنٹ ہم پیسے نہ دی ورکری حالانکہ ورتہ ئے وئیلی وو چے تاسو پیسے ورکری، مونبرہ بہ ورکوؤ او نہ سر زمونبرہ دے واپدے والا ورکری دی، نو سر دا خود واپدے ذمہ واری دہ چے تاسو یو سرے کار لہ لیبرلی او تخفظ ئے ہم نشی کولے نو د ہغے ہغہ Ransom، د ہغوی ہغہ مسئلہ خو حل کری کنہ جی۔ مہربانی جی۔

جناب سپیکر: جی۔ گورنمنٹ سے، میاں افتخار حسین صاحب۔

میاں افتخار حسین (وزیر اطلاعات): جناب سپیکر، عجیب سا لگتا ہے کہ حکومت کے ہوتے ہوئے بھی ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ پیسے دیکر چھڑانا، لیکن ایک حقیقت ہے جس کو تسلیم کرنا پڑتا ہے اور یہ اب کی بات نہیں ہے، تقریباً 30/35 سال سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ اب اس نے شدت اختیار کی ہے، اس حوالے سے میرا خود بھی اے پی اے سے بھی رابطہ ہوا ہے اور واپڈا کے اہلکاروں سے بھی رابطہ ہوا ہے، چونکہ جو اس میں متاثرین ہیں وہ خود میرے پاس آئے تھے، اس میں صرف Ransom کی بات نہیں ہے بیسیوں کی بات

نہیں ہے، وہ اس حوالے سے یعنی کچھ ایسے لوگوں کو بھی رہا کرنا چاہتے ہیں کہ جن کی رہائی حکومت کی بس کی بات نہیں ہے اور جب بھی ایسا کوئی کیس ہوتا ہے تو وہ عدالت میں ہوتا ہے اور عدالت ہی لوگوں کو سزا بھی دیتی ہے اور وہ رہائی بھی دلاتی ہے۔ تو اس حوالے سے مشکل ضرور ہے کہ چند ایسے لوگ جو کہ دہشت گردی میں ملوث ہیں اور ان کی ڈیمانڈ ہے کہ ان کو چھوڑا جائے، تو ایک کوشش یہ ہو رہی ہے کہ اس سے دستبردار کیا جاسکے اور یہ Commitment کرنا، یہ بھی مجھے اچھا نہیں لگتا کیونکہ یہ سارا ریکارڈ پر آتا ہے اور حکومت کی طرف سے بھی ایک بات ہو، لیکن چونکہ واپڈا وفاق سے ہی ہدایات لیتا ہے اور اس حوالے سے ان کا اپنا رابطہ ہے اور انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ کسی نہ کسی سطح پر ہم اس کو لازمی طور پر حل کرنے کی کوشش کریں گے تو جو بھی ان کی جائز ڈیمانڈز ہیں، میرے یہ الفاظ شاید مناسب رہیں گے کہ اغواء کاروں کی جو بھی جائز ڈیمانڈز ہیں، ان کو تسلیم کر کے ان ساتھیوں کو رہائی دلائیں گے اور یہ واپڈا کے لوگوں نے تسلیم کر بھی لیا ہے اور یہاں پر اے پی اے نے بھی کہا ہے اور یہ ایک بات ضرور ہے کہ اتنی اطلاعات ہیں کہ ابھی وہ حیات ہیں، اس میں یہ بھی ایک بڑا پرالم ہے کہ جب پریشر بڑھتا ہے تو ایسے لوگوں کی زندگی خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ تو ہمیں پھونک پھونک کر قدم رکھنا پڑتا ہے کہ انکی زندگی بھی محفوظ رہے، مسئلہ بھی حل ہو، ان کو رہائی بھی دلائیں۔ تو حکومت کوشش کر رہی ہے، البتہ یہ ایک بات، کہ پریشر ڈالنا تو پریشر تو ہے ہی، ہم بھی واپڈا سے یہ بات کر رہے ہیں کہ اگر ایسے جائز مطالبات ہیں جس پر انکی جان بچ سکتی ہے تو کیوں نہ وہ اپنے ملازمین کو چھڑائے؟ لہذا ہم ان کو پر زور انداز میں کہتے ہیں کہ وہ اس سلسلے میں پیش رفت کرے اور جو بھی انکی جائز ڈیمانڈز ہیں، وہ پوری کرے۔

Mr. Speaker: Noor Sahar Bibi, to please move for leave of the House to introduce the Khyber Pakhtunkhwa, Child Protection and Welfare (Amendment) Bill, 2013, under rule 77 of the Procedure and Conduct of Business Rules, 1988.

Ms. Noor Sahar: Thank you, Mr. Speaker. Sir, I beg to move for leave under rule 77, to introduce the Khyber Pakhtunkhwa, Child Protection and Welfare (Amendment) Bill, 2013, in the House.

Mr. Speaker: Honourable Minister for Social Welfare.

محترمہ ستارہ ایاز (وزیر سماجی بہبود و ترقی خواتین): سپیکر صاحب، دا امندمنٹ چھی دوئی کول غواہی، دا فنانس پکبئی Involve دے او فنانس تر اوسہ پوری پہ دے بانڈی خیل خہ نہ دی رالیبرلی، نو مونزہ تر هغی پوری پہ دے خہ خبرہ نہ شو کولے

خُکھ چہی خومرہ ہم دیکہنہی دا دوئی ورکری دی، دا امندہ منتس دیکہنہی ٲول
 It has to go Financial implications دی، نو ہغہ فنا نشنل چہی پکہنہی دی نو
 to Finance او فنا نس بہ پری بیا خپل Approval ورکوی یا ہغوی چہی ہر خہ
 پری وائی مونرہ تہ جی خہ اعتراض پری نشتہ خو کیہنٹ او فنا نس تہ بہ خی، بیا
 بہ Approval راخی۔

(مغرب کی اذان)

جناب سپیکر: بیس منٹ کیلئے نماز اور چائے کیلئے وقفہ کیا جاتا ہے۔

(اس مرحلہ پر ایوان کی کارروائی مغرب کی نماز اور چائے کیلئے ملتوی ہو گئی)

(وقفہ کے بعد جناب سپیکر مسند صدارت پر متمکن ہوئے)

جناب سپیکر: جی مفتی صاحب! خو ڍیر اور دوہی بہ ئے نہ گورے، مختصر
 مختصر۔

قائد اعظم محمد علی جناح کے خلاف ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین کا بیان

مفتی کفایت اللہ: مہربانی جناب سپیکر۔ جناب سپیکر، میں ایک اہم قومی امر کی طرف آپ کو متوجہ کرنا چاہتا
 ہوں، وہ یہ کہ کل ہم نے سنا کہ کوئی ڈرون حملہ ہو رہا ہے اور وہ ڈرون حملہ، اس کے پرزے مکمل نہیں تھے
 تو وہ ڈرون حملہ کرنے والا بھول گیا اس نے ڈرون حملہ نہیں کیا اور جو کچھ ڈرون اس نے کیا تو قائد اعظم محمد
 علی جناح کے خلاف کر دیا ہے اور اس نے ایسی ایسی باتیں کیں جناب سپیکر، کہ وہ Dual nationality کا
 حامل تھا، اس کے پاس برطانیہ کا پاسپورٹ تھا اور ایسے موقع پر اس نے یہ بھی کہا کہ اس نے جارج ہشتم کی
 وفاداری کا حلف اٹھایا تھا، میں اس پر حیران ہوں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر سو موٹو ایکشن ہوتا ہے۔
 (تالیاں) اور اتنی بڑی بات پر سو موٹو ایکشن کیوں نہیں ہوتا؟ ایک شخص لندن میں بیٹھا ہوا ہے

جناب سپیکر: ذرا میرے خیال میں آپ بیٹھ جائیں، تھوڑا ہاؤس آجائے پھر یہ بات کر لیں۔ ذرا Full
 ہو جائے، Full ہو جائے۔

مفتی کفایت اللہ: جناب سپیکر، میں اس اضافی وقت کو استعمال کرنا چاہتا ہوں۔

جناب سپیکر: نہیں ایسی چیز آپ نے چھیڑ دی کہ اس پر میاں صاحب بھی، سارے کچھ کہنا چاہ رہے تھے۔
 جی بولیں، بولیں۔

مفتی کفایت اللہ: جناب سپیکر، میں یہ سمجھتا ہوں کسی بھی ملک کے خلاف جب بات کی جاتی ہے تو اس کے بانی کے خلاف پہلے بات ہوتی ہے اور یہ وہ پہلی باڑ ہے اور احتیاط ہوتی ہے جس کو توڑ دیا جاتا ہے اور جب اس کو توڑا جاتا ہے تو اسکے بعد اس ملک پر حملہ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ جناب سپیکر، قائد اعظم محمد علی جناح ایک غیر متنازعہ شخصیت ہیں اور اسکوزبردستی متنازعہ بنانے کی آخر کیا ضرورت تھی؟ کس طرح ایک شخص اگر محمد علی جناح کے خلاف بولتا ہے، بانی پاکستان کے خلاف بولتا ہے اور ساتھ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ میں اس ملک سے مخلص ہوں اور میں اس سے ہمدردی کرنا چاہتا ہوں، ہمیں بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے۔ جناب سپیکر، کل اس نے ایک بات اور بھی کی ہے اور وہ یہ کہ اردو بولنے والے سندھیوں کو دیوار سے نہ لگایا جائے اور اگر اردو بولنے والے سندھیوں کو دیوار سے لگایا گیا تو پھر ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے الگ صوبے کی بات کریں گے۔ اسکے معنی یہ کہ اسکے دل میں الگ صوبے کی بات تو ہے اور وہ کرنا چاہتا ہے تو بہانہ بنانا چاہتا ہے، الزام دوسرے پر لگانا چاہتا ہے۔ جناب سپیکر، ہمیں بہت پہلے سے اس خطرے سے آگاہی تھی کہ یہاں پر جناح پور کا نقشہ تیار ہو گیا ہے اور حیدر آباد اور کراچی کو اس کیلئے تیار کیا جا رہا ہے اور بین الاقوامی ایجنڈا ہے خاتمہ بہ دہن کہ وہ پاکستان کو اس طرح توڑنا چاہتے ہیں اور یہ ملک کو الگ کرنا چاہتے ہیں۔ جناب سپیکر، اسکی ابتدا ہو گئی ہے کہ جب وہ یہ کہتا ہے کہ میں الگ صوبہ چاہتا ہوں اور مجھے مجبور کیا جا رہا ہے اور جب وہ یہ کہتا ہے، قائد اعظم محمد علی جناح کو وہ بہت زیادہ متنازعہ بنا رہا ہے تو پھر اسکے معنی یہ ہیں کہ وہ اس ملک کیساتھ اخلاص نہیں کرتا۔ ہم جب بھی دیکھتے ہیں، کراچی سے ہمیں ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے، وہاں نارگٹ کلنگ ہوتی ہے اور نارگٹ کلنگ میں آج تک کسی حکومت نے Killers کو نہیں پکڑا اور اسکی وجہ یہ ہے کہ ایک ہمارے پاس یہ جو لوگ ایم این ایز اور ایم پی ایز بن جاتے ہیں، انکے پاس ایک آئینی اسلحہ ہوتا ہے، ایک آئینی ہتھیار ہوتا ہے اور آئینی ہتھیار کے ذریعے تشدد کا مقابلہ کیا جاتا ہے کہ ووٹ کے ذریعے آپ آئیں لیکن کراچی ایسا بد بخت علاقہ ہے، بد قسمت علاقہ ہے اور شہر ہے کہ وہاں وہ کلنگ کی کنجی جس کے پاس ہے، آئینی کنجی بھی اسی کے پاس ہے۔ میں یہ انکشاف کرتے ہوئے ذمہ داری سے کہتا ہوں اور آپ پریشان بھی نہ ہوں کہ جو تصویر پورے ملک میں طالبان کی ہے، کراچی کے اندر وہی تصویر ایم کیو ایم کی ہے اور اپنے لئے ’ڈیٹھ سکوڈ‘ رکھتے ہیں اور لوگوں کو قتل کرتے ہیں۔ وہاں نمبر نمبر سے پختونوں کو مارا گیا، پھر سندھیوں کو مارا گیا، پھر پنجابیوں کو مارا گیا اور آپ کو یاد ہو گا کہ وہاں 12 مئی کا واقعہ ہوا ہے اور وہاں وکیلوں کو زندہ جلایا گیا اور آج پوری قوم کو ایک نفسیاتی بیماری میں مبتلا کر دیا گیا کہ میں ڈرون کرنا چاہتا ہوں اور پھر یہ کہہ دیا کہ میں جو

ڈرون کرنا چاہتا ہوں، کچھ پرزے کم ہیں، وہ پرزے مل جائینگے اور جب لوگ 'ٹیلیفونک' خطاب کیلئے بیٹھے تو اس نے یہ ڈرون کر دیا کہ ایک تو میں الگ صوبہ چاہتا ہوں، اس لئے کہ مجھے دیوار سے لگایا جا رہا ہے اور میں گورنری پر اکتفاء نہیں کرونگا اور ساتھ دوسرا ڈرون حملہ اس نے قائد محمد علی جناح کے خلاف کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں ایسی باتیں ہو گئی لیکن بانی پاکستان کے خلاف وہ جس طرح کہہ رہا تھا اور آج جب میں اخبارات دیکھ رہا تھا تو کوئی اخبار اس کے بارے میں نہیں لکھ رہا، اس کے معنی یہ کہ کوئی Mutual understanding ہو گئی ہے۔ میں اس اسمبلی کے ذریعے بھی ایک قرارداد کی حمایت کرتا ہوں اور اپنے چیف جسٹس سے کہتا ہوں، جس کو پھوٹی پھوٹی غلطیاں نظر آتی ہیں، اس سے کہتا ہوں کہ وہ سو موٹو ایکشن لیکر الطاف حسین کے خلاف ایکشن لیں، اگر یہ ایکشن نہ لیا گیا تو ملک کی سلامتی کو شدید خطرات لاحق ہیں۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔

جناب سپیکر: شکریہ۔ نگہت اور کرنی صاحبہ۔

محترمہ نگہت یاسمین اور کرنی: شکریہ جناب سپیکر۔ جناب سپیکر صاحب، بہت دنوں سے ہم سن رہے تھے، میں ایک پاکستانی کی حیثیت سے الطاف حسین صاحب چونکہ ان کو گنگنا نے کا بھی شوق ہے، ان کو گانا گانے کا بھی شوق ہے اور پھر وہ قائد اعظم صاحب کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ہم سا ہو کوئی تو سامنے آئے۔ جناب سپیکر صاحب! میں آپ کے توسط سے اس کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ:

گن کی صورت یہ تعصب تجھے کھا جا رہا ہے اپنی ہر سوچ کو محسن نہ علاقائی کر

جناب سپیکر صاحب، یہ تو واضح طور پر بات ہو گئی ہے کہ ہم نے جب علاقائی سوچ کو Develop کر لیا ہے جناب سپیکر صاحب، تو جناب سپیکر صاحب، الطاف حسین صاحب کے بارے میں یہ بات ضرور ان سے پوچھنا چاہو گی کہ الطاف حسین صاحب کی کسی بھی ہسٹری میں نہیں جانا چاہتی، الطاف حسین صاحب کی ہسٹری بھی سب کو معلوم ہے اور ہماری تمام پارٹیوں کے جتنے بھی رہنما ہیں، انکی ہسٹری بھی سب کو معلوم ہے جناب سپیکر صاحب، لوگ جلا وطن ہوئے، انہوں نے پاسپورٹ کسی بھی ملک کا نہیں لیا، جب ان کو تنگ کیا گیا، جلا وطن ہوتے ہی پاسپورٹ کسی ملک کا نہیں لیا گیا، اس کی واضح مثال جو انہوں نے کل اپنے پیغام میں کہی کہ بے نظیر بھٹو صاحب، نواز شریف صاحب کے بارے میں انہوں نے بات کی جناب سپیکر صاحب، کہ اگر ہم اسی طرح گنڈا چھالتے رہے، کیچڑ، اور پھر سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ قائد اعظم خود پاکستان تھے، قائد اعظم خود پاکستان ہیں جناب سپیکر صاحب، میں الطاف حسین صاحب سے یہ بھی پوچھنا

چاہو گئی کہ خدا نخواستہ، میرے منہ میں خاک، کہ اگر یہ پاکستان نہ ہوتا جناب سپیکر صاحب، تو آج الطاف حسین صاحب اتنی بڑی پارٹی کے لیڈر نہ ہوتے، آج ایم کیو ایم کے ایم این ایز نہ ہوتے، آج ایم پی ایز نہ ہوتے اور جناب سپیکر صاحب، آخر انکے دل کی بات منہ پر آ ہی گئی کہ جو انہوں نے ہزارہ کی تحریک کو سپورٹ کیا، انہوں نے دوسری جگہوں پر جو صوبوں کو سپورٹ کیا اور پھر انہوں نے کہا کہ مہاجر جو ہیں، اردو بولنے والے جو ہیں، وہ الگ صوبہ بنانے کیلئے اپنی آواز بلند کرینگے۔ جناب سپیکر صاحب، قائد اعظم ایک ایسی شخصیت کہ جنہوں نے اپنی بیماری کو بھی مد نظر نہ رکھا اور انہوں نے آخری وقت تک اس پاکستان کو ہمارے حوالے کیا جناب سپیکر صاحب، آج آپ جس کرسی پر بیٹھے ہیں، قائد اعظم کی مرہون منت ہے، آج جو میں یہاں اسمبلی میں بات کر رہی ہوں، قائد اعظم کی مرہون منت ہے، آج میاں افتخار صاحب اگر یہاں پہ سینئر منسٹر کی حیثیت سے، Spokesperson کی حیثیت سے بیٹھے ہوئے ہیں، منسٹری کے جھنڈے ان کو لگے ہوئے ہیں، آج یہ قائد اعظم اور پاکستان کی بدولت ہے جناب سپیکر صاحب۔ جناب سپیکر صاحب، ہم نے اپنے تمام تر اختلافات کو بالائے طاق رکھ کے، سب سے پہلے الطاف حسین صاحب سے میں یہ بات کرنا چاہتی ہوں کہ آپ پہلے کراچی کو امن کا گوارہ تو بنائیں، پہلے کراچی میں یہ ٹارگٹ کلنگ تو بند کریں، کراچی میں آپ کے ایم این ایز بھی ہیں، آپ گورنمنٹ میں شامل بھی ہیں اور آپ جو ڈرون کی بات کرتے ہیں جناب سپیکر صاحب، ڈرون کا جو لفظ ہے، یہ ہمیں کسی صورت میں کسی جگہ پہ استعمال نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ڈرون وہ لوگ استعمال کر رہے ہیں کہ جن کے خلاف پوری قوم متحد ہے، ڈرون کے لفظ کے خلاف جناب سپیکر صاحب اور جب ان کو کچھ پرزے جیسا کہ مفتی صاحب نے بات کی اور میں آخر میں یہی بات کروں گی کہ قائد اعظم ایک غیر متنازعہ شخصیت تھے، ہیں اور اب تک وہ غیر متنازعہ شخصیت رہیں گے الطاف حسین صاحب! اور میں چیف جسٹس آف پاکستان سے یہ مطالبہ اس اسمبلی کے فلور سے کرتی ہوں کہ وہ اس پہ سو موٹو ایکشن لیں کیونکہ قائد اعظم کی بدولت ہی آج جو چیف آف آرمی سٹاف ہیں، آج جو چیف جسٹس آف پاکستان ہیں، ہم سب ہیں، ہم جوان کھلی فضاؤں میں سانس لے رہے ہیں، یہ قائد اعظم کی مرہون منت اور ان کے ساتھ جن لوگوں نے آزادی کیلئے جنگ لڑی، یہ ان لوگوں کی مرہون منت ہے جناب سپیکر صاحب، پاکستان کیلئے ہم لوگوں نے بہت قربانیاں دیں اور قائد اعظم کا پاسپورٹ اس طریقے سے کھلے 'لائوشو' میں بنانا جناب سپیکر صاحب، یہ کسی شخص کو زیب نہیں دیتا، چاہے وہ کتنا بڑا لیڈر ہی کیوں نہ ہو۔ میں ایک پاکستانی کی حیثیت سے اس چیز کی مذمت کرتی ہوں اور قائد

اعظم پہ جو انہوں نے ڈرون حملہ، مجھے یہ لفظ کہتے ہوئے شرم آتی ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی ڈرون خوشگوار ہوگا، الطاف حسین صاحب! قائد اعظم کی شخصیت کو متنازعہ کر کے آپ اس کو خوشگوار حملہ کہہ رہے ہیں، میں قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کی جتنی بھی ان کے خلاف بات کی گئی یا ان کو برٹش جیسے بھی ان کو کہا گیا جناب سپیکر صاحب، الطاف حسین صاحب کو تو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس وقت اگر ایک ریڑھی بان بھی UK جاتا تو وہ بھی برٹش پاسپورٹ پہ ہی جاتا اور 1947ء کے بعد انہوں نے کتنے دورے کئے، آپ تو 1973ء کا جو متفقہ ایک آئین ہے، اس کے بعد آپ جاتے ہیں اور آپ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمیں Dual Nationality دے دو، آپ آئیں، یہاں پہ، سپیکر صاحب، آپ اس کر سکیں یہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی جان کو خطرہ ہے، یہاں پہ اے این پی کے لوگوں کو میری اس اسمبلی کیلئے، میں نے ابھی آپ سے بات بھی کی تھی کہ میں پریزیڈنٹ آف پاکستان، پرائم منسٹر آف پاکستان، چیف جسٹس آف پاکستان، چیف آف آرمی سٹاف سے یہ بات کرنا چاہوں گی اس اسمبلی کے فلور پہ کہ اس اسمبلی کے یہاں پہ جتنے ایم پی ایز ہیں، یہاں پہ جتنے سیکرٹریز بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پہ جتنے کلرکس ہیں، یہاں اس اسمبلی کے ساتھ وابستہ ہر شخص کو اس اسمبلی کے نام پہ ایک امن ایوارڈ کا اعلان کیا جائے، یہ بات لوگوں کے ذہن میں رہے کہ ہم لوگوں کی جانیں تو خطرے میں ہیں۔ الطاف حسین صاحب، آپ کو کس کی پرواہ ہے، کیا آپ نے خدا سے لکھوا کے لے لیا ہے کہ آپ جب تک UK میں ہونگے تو آپ کی جان کو خطرہ نہیں ہوگا اور جب آپ پاکستان آئیں گے تو آپ کو مار دیا جائے گا؟ جناب سپیکر صاحب، کیا ہم لوگ یہاں پہ بغیر پروٹوکول کے نہیں ہوتے؟ جناب سپیکر صاحب، ہم اس اسمبلی کا، ہم اپنے لیڈران کا، ہم تمام اتحادی جماعتوں کے تمام لیڈران کا ہم لوگ احترام کرتے ہیں، ہم ان کی قربانیوں کو سراہتے ہیں اور جو پانچ سال جس طریقے سے اتحادیوں نے ایک دوسرے کا ساتھ دیا، آخر میں آ کے قادری صاحب، قادری صاحب کیلئے ان کے دل میں پتہ نہیں محبت کا انجکشن کیسے لگ گیا؟ جیسا کہ اب انتخابات ہم چاہتے ہیں، ساری پارٹیاں اس پہ متفق ہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ قادری صاحب کو کیوں Defend کر رہے ہیں؟ اور پھر قادری صاحب کو اور اپنے آپ کو قائد اعظم کے ساتھ ملانا جناب سپیکر صاحب، یہ کوئی پاکستانی برداشت نہیں کرے گا اور جناب سپیکر صاحب، آخر میں چونکہ مجھے پتہ ہے کہ دوبارہ اس کے بعد مجھے موقع نہیں ملے گا تو میں 'سما'، ٹی وی، تمام اسمبلی کی طرف سے، آپ کی طرف سے، اپنی طرف سے، تمام پارٹیوں کی طرف سے 'سما'، ٹی وی کے تمام بے گناہ لوگ جو وہاں پہ شہید ہوئے ہیں، کل بلوچستان میں، میں ان کی تعزیت کرتی ہوں، ان لوگوں سے، اس

ادارے سے تعزیت کرتی ہوں اور سوات میں جو تبلیغی مرکز میں جو لوگ شہید ہوئے ہیں جناب سپیکر صاحب، میں ان لوگوں کی بھی، ان لوگوں کی مذمت کرتی ہوں اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ تو اب تبلیغی مراکز تک لوگ پہنچ آئے ہیں، یہ جناب سپیکر صاحب، نہ تو کوئی باہر کی سازش ہے نہ کوئی اندرونی سازش ہے، یہ آپ ہم سب لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ کون کروا رہا ہے اور کون ہمارے ملک کو Destabilize کر رہا ہے؟ ان لوگوں کو منہ کی کھانی پڑے گی، طالبان ہیں، میں طالبان کا نام نہیں لیتی ہوں، میں ان دہشت گردوں کو پکارتی ہوں کہ دہشت گردی سے باز آ جاؤ، مذاکرات کی ٹیبل پہ آ جاؤ کیونکہ مذاکرات ہی وہ چیزیں ہیں، مذاکرات ہی وہ ٹیبل ہے جہاں پہ تمہیں بھی ریلیف ملے گی اور پاکستان کے لوگوں کو بھی ریلیف ملے گی۔ اب پاکستان کے بے گناہ لوگوں کا خون جو ہے، وہ بند کر دو اور یہاں سے یہ جو تعزیتی پیغام ہے، تمام ان لوگوں کیلئے، بلوچستان کے لوگوں کیلئے اور خاص کر جو سوات میں شہید ہوئے ہیں اور پھر جو 'سما' کے جو ہمارے مارے گئے ہیں، کیونکہ جناب سپیکر صاحب، میڈیا ہماری برادری ہے کیونکہ میڈیا ہی ہماری اچھی اور بری چیزوں کو لوگوں کی نظر میں لاتا ہے، تو میں آخر میں پھر چیف جسٹس آف پاکستان سے یہ درخواست کروں گی کہ قائد اعظم صاحب کے بارے میں جو نازیبا الفاظ استعمال ہوئے ہیں، ان کی جو کردار کشی کی گئی ہے جناب سپیکر صاحب، وہ سو موٹو ایکشن لیں اور اس کے خلاف باقاعدہ طور پر سو موٹو ایکشن لے کر اس پہ کام کریں۔ تھینک یو۔

جناب سپیکر: شکریہ۔ چونکہ وہ لیجسلییشن ہو رہی تھی۔۔۔۔۔

سردار شمعون یار خان: جناب سپیکر صاحب، پوائنٹ آف آرڈر۔

جناب سپیکر: ہں جی؟

سردار شمعون یار خان: میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔

جناب سپیکر: چلیں آپ بھی بولیں جی، سردار شمعون یار خان، جی۔

سردار شمعون یار خان: شکریہ جناب سپیکر۔ یہ مفتی سفاقت اللہ صاحب نے جس چیز کی طرف نشاندہی

کرائی ہے، بہت ہی افسوسناک بات ہے اور جس طرح کل سارے ٹی وی چینلز پہ بتایا جا رہا تھا اور قائد اعظم محمد علی جناح ایسی شخصیت ہیں جن کے بارے میں کوئی بھی انسان مسلمان جو ہیں خاص طور پر، وہ اگر سنے گا تو اس کو ضرور اس بات کا افسوس ہو گا کہ بھئی ایک ایسے شخص کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، اس کے اوپر الزام لگایا جا رہا ہے کہ جنہوں نے انتھک محنت سے باقی مسلمان رہنماؤں کے ساتھ ملکر پاکستان کا قیام

عمل میں لایا اور آج اس بات پہ بھی مجھے حیرانگی ہے اور افسوس بھی ہے کہ تمام جو ایکسٹرانک میڈیا چینلز ہیں، وہ بڑے بھرپور طریقے سے اس تقریر کو دکھا رہے تھے، جس طرح وہاں پہ کوئی میلہ لگا ہوا اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ پہلے بھی اسی طرح کرتا رہا ہے، اسی طرح ٹی وی پر آتا رہا ہے اور پچھلے مختلف دنوں میں ہم جب دیکھیں تو مختلف انداز میں اپنے آپ کو 'شو' کرنا، اپنے آپ کو بیان کرنا کہ میں بہت بڑی چیز ہوں اور میں پاکستان کیلئے جو ہے، پاکستان کو کنٹرول کرتا ہوں، وہاں سے بیٹھ کے پاکستان کی پارٹی کو باہر سے بیٹھ کے کنٹرول کرتا ہوں۔ تو میں پہلے تو یہ چاہوں گا اور یہ سوال بھی کرتا ہوں میڈیا سے، کہ آیا وہ اس ملک کے باشندے نہیں ہیں، آیا جو یہ نیوز چینلز ہیں، جو ان کے مالک ہیں، وہ اس ملک کے باشندے نہیں ہیں؟ کیا وہ بانی پاکستان کی قدر نہیں کرتے ہیں کہ جو الفاظ ان کے بارے میں کہے گئے ہیں؟ اور اس کے باوجود بھی ٹی وی چینلز پہ وہ اس کی تقریر دکھائی گئی ہے اور ان کو تو یہ چاہیئے تھا کہ اس پروگرام کو فوری طور پر بند کر دیتے۔ تو میں ان سے یہ پوچھنا چاہوں گا اور ان کو جواب دینا چاہیئے، تمام نیوز پیپر ز اور ٹی وی چینلز میں اس کے بارے میں آنا چاہیئے، ان کو اپنی رائے بیان کرنی چاہیئے اور بالکل صحیح کہا مفتی صاحب نے، کہ کسی بھی نیوز چینل میں یا ٹی وی، کسی بھی اخبار میں اس کے بارے میں کوئی مذمتی قرارداد نہیں پیش کی گئی، کوئی مذمتی بیان نہیں دیا گیا۔ تو میں چاہوں گا کہ ہم سب کو اس شخص کی بھرپور طریقے سے، جو اس نے باتیں کی ہیں، اس کے بارے میں ہمیں احتجاج کرنا چاہیئے اور ایک مذمتی قرارداد یہاں پہ پیش کرنی چاہیئے اور میں حکومت سے مطالبہ کروں گا کہ وہ فوری طور پر چیف جسٹس کو بھی اور فارن آفس کو وہ خط لکھیں کہ اس شخص کو حکومت برطانیہ وہاں سے ٹیلیفونک خطاب کرنے سے Ban کیا جائے تاکہ آئندہ کیلئے بھی اس شخص (تالیاں) کی کوئی بھی بات ہمارے ملک کے بارے میں، بانی پاکستان کے بارے میں، یا ملک کی کسی بھی جماعت کے لیڈر کے بارے میں یہ شخص بات نہ کر سکے اور اس کو مکمل طور پہ وہاں Ban کرنا چاہیئے، حکومت سختی سے اس کا مطالبہ کرے برطانوی حکومت سے اور اس پہ Make sure کرے کہ وہاں سے اس کو روکا جائے کیونکہ جب تک وہاں سے اس کو روکا نہیں جائے گا، اگر یہ برطانوی شہری ہے تو ہمارے ملک میں اس کا کیا کام ہے، ہمارے ملک کے بارے میں یہ کیوں ایسی باتیں کرتا ہے؟ ہم لوگوں کو بیٹھ کے کئی کئی گھنٹے جو اس کی تقریر کو اس سنائی جاتی ہے کہ ہم لوگ اس کو سنتے ہیں، لوگ اس کو سنتے ہیں اور میں لوگوں پہ بھی حیران ہوتا ہوں، عوام پہ حیران ہوں کہ وہ اس کی باتیں سننے کیوں ہیں؟ آیا ہم لوگوں کو اس کی پارٹی کے بارے میں یا اس شخص کے بارے میں اس کی حقیقت ہمیں معلوم نہیں ہے؟

تو، جناب سپیکر! آپ بالکل ضرور مجھے ٹوکیں گے، تو میں ان آخری کلمات کی طرف آؤں گا کہ ہمارے جو ادارے ہیں، ہمارے ملک کے جو ادارے ہیں، جن میں خاص طور پر میڈیا کا آجکل بڑا Role ہے، یہ کافی انفارمیشن دیتے بھی ہیں مگر ایک حساب میں رہ کر ان کو چیزیں دکھانی چاہئیں، اب جس طرح سے وہ کل، کل کی بات ہے، جب یہ اس کی تقریر سن رہے تھے، میں نے تو خیر اس کو دیکھا بھی نہیں ہے اور ٹی وی چینل چیلنج کرتے ہوئے نظر جب پڑی تو میں بہت حیران ہوا کہ کوئی ایسا چینل نہیں تھا کہ جس نے اس کی رپورٹ نہ دی ہو۔ تو میں پھر سے یہ گزارش کروں گا حکومت سے بھی اور میڈیا کے چینلز سے بھی کہ اس شخص کی کسی بھی قسم کی رپورٹنگ نہ کی جائے، اس کا کسی بھی قسم کا پروگرام نہ دکھایا جائے، اس کی پارٹی سے منسلک جو بھی چیز ہے، اس کو فوری طور پر روکا جائے اور اس کا بائیکاٹ کیا جائے، جب تک یہ شخص، جو الفاظ اس نے بانی پاکستان کے بارے میں استعمال کئے ہیں، جب تک ان پہ یہ معافی نہ مانگے اور یہ ایک نیا شخص جو یہاں پر اس کو لایا گیا ہے، تمام ملک میں جس نے افراتفری پھیلا دی ہے، تمام اداروں کو، تمام ملک کے لوگوں میں جس نے آکر پریشانی پھیلا دی ہے، دس سال جب وہ باہر بیٹھا رہا، آج اس کو خیال آ گیا ملک پاکستان کا، اور وہ جب 2002ء میں ممبر رہا قومی اسمبلی کا، اس ٹائم وہ سویا ہوا تھا اور اس نے دیکھا کہ میری دال اس ٹائم گل نہیں رہی ہے تو وہ استعفیٰ دے کے باہر چلا گیا۔ آج جب اس کے ساتھ اس نے کچھ ایسے لوگوں سے رابطہ کیا ہے کہ وہ جو اس کو سپورٹ کر رہے ہیں جس میں یہ جناب الطاف حسین بھی شامل ہے، تو لہذا صرف اور صرف یہ پاکستان کو کمزور کرنے کی سازش ہے اور اس کے مختلف طریقے سامنے لائے جا رہے ہیں، لہذا میں چاہوں گا اور یقین ہے مجھے کہ پوری اسمبلی میری بات سے اتفاق کرے گی اور اس کے خلاف ہمیں مذمتی قرارداد لانی چاہیے (تالیاں) میں چاہوں گا کہ ہم ابھی متفقہ طور پر بیٹھ کر اس کو ڈرافٹ کریں اور اس کو ابھی یہاں پہ پیش کیا جائے تاکہ اس کو بھرپور طریقے سے روکا جاسکے۔

جناب سپیکر: شکر یہ جی۔ میاں افتخار حسین صاحب۔

میاں افتخار حسین (وزیر اطلاعات): جناب سپیکر صاحب، بات اس لئے کرنا پڑتی ہے، چونکہ انہوں نے قرارداد کی بات کی، پھر ہمیں اس میں لازمی طور پر شرکت کرنی ہے۔ مسئلہ کچھ ایسا ہے اور بڑے اچھے انداز میں انہوں نے جو پہلے بیان کیا، میں اتنا ضرور کہوں گا کہ اس ملک کی ایک بد قسمتی ضرور رہی ہے کہ ہسٹری اس طریقے سے موجود نہیں جس طریقے سے ہسٹری ہونی چاہیے۔ مرضی کی تاریخ بنائی گئی ہے اور اپنے طور پہ یعنی برصغیر کے جو ہیر وز تھے، جس طریقے سے انگریزوں کو نکالا گیا اور جن جن لوگوں نے برصغیر کی

آزادی میں حصہ لیا، تاریخ میں آج بھی ان کا نام و نشان موجود نہیں ہے، جس طریقے سے ہونا چاہیئے۔ اگر حقیقی تاریخ ہوتی تو شاید لوگوں کو یہ باتیں نہ کرنا پڑتیں اور یہ بات کہ پھر کوئی اپنے طور پر ایک بات نکال کے لائے اور وہ اس بنیاد پر کہہ دے کہ فلاں تاریخ میں یہ چیز موجود ہے، جو چیز ہسٹری ہے وہ ہسٹری ہے، ہسٹری کو کوئی Deny نہیں کر سکتا۔ اس حوالے سے ہم یہ ضرور کہیں گے کہ حقیقی تاریخ ہونی چاہیئے، گزشتہ میرا کیا کردار رہا ہے، میں نے اس دھرتی کیلئے کیا کیا ہے، کیا کچھ ہوا ہے؟ کہ آئندہ نسل کو یہ بات پتہ چلے کہ کوئی نئی بات کرے تو لوگوں کو عجوبہ نہ لگے، کوئی حقیقی، اگر آج ہم تریسٹھ سال کی حقیقی ہسٹری پڑھتے تو کسی کو کیا جرات ہوتی کہ وہ ہمیں ایک نئی نویلی نوید سنائے؟ رہی یہ بات کہ میں ان ہیروز کو سلام پیش کرتا ہوں کہ جن کو پاکستان کی ہسٹری میں وہ کردار نہیں دیا گیا جو کہ دنیا کی تاریخ میں ان کا ایک کردار ہے (تالیاں) اور بد قسمتی سے میں یہ بات اس لئے کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آج ایک تکلیف مخصوص انداز میں محسوس کی جا رہی ہے تو ان لوگوں سے پوچھا جائے جن کو تریسٹھ سال اس درد سے گزرنا پڑا اور آج ہم اس حوالے سے یہ بات ضرور کریں گے کہ جس نے بھی اس دھرتی کی خاطر قربانیاں دی ہیں، اس حوالے سے تاریخ کو درست کیا جائے، مرضی کی تاریخ کو نہ پڑھایا جائے، انگلش میں الگ تاریخ، اردو میں الگ ہسٹری، اس کو نہ دیکھا جائے۔ اگر ہماری تمام ہسٹری انڈین آفس لائبریری میں موجود ہے اور انڈین آفس لائبریری میں وہ حقائق موجود ہیں کہ انہوں نے کہہ دیا کہ تیس سال کے بعد تمام ڈاکو منٹس جو ہیں، وہ قوم کی پراپرٹی ہے، لہذا اگر ہماری تاریخ وہاں پہ موجود ہے تو ہم کیوں پھر اس کو اس طریقے سے بیان کریں کہ کل کو لوگ ہم سے یہ نہ پوچھیں کہ آپ لوگوں نے تاریخ کو کیوں مح کیا؟ لہذا تاریخ تاریخ ہے۔ یہ بات جو الطاف حسین صاحب نے کہی ہے، اس حوالے سے، جناح صاحب کے حوالے سے، تو وہ اس لئے سچ نہیں ہے کہ ان دنوں میں پاکستان تھا ہی نہیں تو کس طریقے سے ان کے پاس پاکستانی پاسپورٹ ہوتا؟ (تالیاں) لہذا ہم باچا خان کے پیروکار اس سچے نظریے کے پیروکار کہ ہمیں بہت درد ملا ہے، ہم اس درد سے گزرے ہیں، ہمارے ان جیسے ہیروز کو غدار کہا گیا اور لوگ خوشی مناتے رہے لیکن آج وہ لوگ خودیہ درد محسوس کریں گے کہ جب ایسی بات کی جاتی ہے تو لوگوں کو کتنی تکلیف ہوتی ہے؟ لہذا آج ہم اس درد کو محسوس کرتے ہوئے یہ ضرور کہتے ہیں کہ جو ہسٹری الطاف حسین نے عوام کے سامنے رکھی ہے، وہ ہسٹری پاکستان سے قبل کی ہے، پاکستان بننے سے قبل یا 1957، 1958 تک یہ برٹش جو یہاں پہ سسٹم تھا، اس کے تحت پاسپورٹ بھی وہی رکھنا تھا، حلف بھی وہی اٹھانا تھا، تو اگر وہ

یہ کہہ دیں کہ ان کے پاس برٹش پاسپورٹ تھا، تو یہ سچائی بھی کہہ دیجئے کہ اس وقت سب کے پاس یہ پاسپورٹ تھا، صرف ان کے پاس تو نہیں تھا (تالیاں) لہذا اس بات کو، ہم سچی تاریخ کے حق میں ہیں، حقیقی تاریخ کے حق میں ہیں اور حقیقی تاریخ ہونی چاہیے۔ لہذا آج ایک بات کہ کوئی اپنی مرضی سے کہے اور پاکستان انہی باتوں سے ٹوٹ چکا ہے، جھوٹی باتوں سے پاکستان دو لخت ہو چکا ہے، جناح کا پاکستان جب کبھی مشرقی پاکستان کہلا کر تھا، آج وہ بنگلہ دیش بن چکا ہے، لہذا ہماری وہ غلطیاں، جی ایم سید صاحب جس کی تاریخ ہے کہ پاکستان بنانے میں سب سے بڑا کردار اسکا رہا، لیکن پاکستان بننے کے بعد اسکو جو تکلیفیں دی گئیں، پھر اسکی تاریخ دیکھیں کہ اس نے کیا کہا ہے؟ لہذا پیار بانٹئے، محبت بانٹئے، کسی کے ایک لفظ کی بنیاد پہ ساری تاریخ کو منح کرنے کی کسی کو ضرورت نہیں ہے، نہ کسی کو ہم یہ اجازت دے سکتے ہیں، تاریخ سچی ہے، سچی رہے گی، تاریخ کے آئینے میں جو جھوٹا ہے، اسکو سچا ثابت نہیں کیا جاسکتا اور جو سچا ہے اسکو جھوٹا ثابت نہیں کیا جاسکتا۔ لہذا ہم آج اس اسمبلی کے فلور پہ ایک تاریخی دن ہے کہ آج الطاف حسین صاحب نے بات کی اور اس نے پھر یہ بھی کہا کہ اب مجھے لانگ مارچ میں نہیں جانا، شاید ڈورن ایک ہی تھا لیکن کہہ گیا اس وقت۔ یہ بھی اچھی بات ہے کہ آج اس کو یاد آیا کہ لانگ مارچ میں نہیں جانا، لیکن کل رات تک جو اسکا بیان تھا کہ مجھے ہر قیمت میں جانا ہے، طاہر القادری کی ڈیمانڈ غیر آئینی ہے، غیر جمہوری ہے جو کوئی بھی اسکا ساتھ دے گا، وہ غیر جمہوری اقدام کریگا، غیر آئینی اقدام کریگا (تالیاں) لہذا ہم اس بنیاد پہ سپیکر صاحب، یہاں پر دو باتیں میں ضرور کہو، چونکہ انفارمیشن منسٹر ہونے کے ناطے بھی میں باہر بات کر بھی چکا ہوں کہ جو ہمارے بلوچستان میں واقعہ پیش آیا، اس میں بہت سارے لوگ شہید ہوئے، ایک سو کے قریب لوگ شہید ہوئے، کل خون سے رنگا ہوا دن پاکستان میں، ہمارے منگورہ میں 23 لوگ شہید ہوئے، کراچی میں 13 لوگ شہید ہوئے، پاکستان کو جب بندہ دیکھتا ہے تو بندہ سوچتا کہ اے خدا! یہ تو آئے روز خون بہنے میں مزید اضافہ ہو رہا ہے۔ ہمیں اپنے کرداروں پہ نظر ثانی کرنی ہے اور موجودہ صورت حال کا بھی جائزہ لینا ہے۔ اگر 'سما' کے ہمارے ساتھی، صحافی ساتھی شہید ہوئے، وہاں پر سیکورٹی ایجنسی کے ساتھی بھی شہید ہوئے اور ہمارے عوام بھی شہید ہوئے اور ساتھ میں یہ کہنا، میں یہی کہو، لہذا کہ اس جذباتی ماحول کی بنیاد پہ پھر ایک بار ہم یہ دہرانا چاہیں گے کہ ہم جذبات کی رو میں بہہ کے ایسی بات نہیں کریں گے کہ موجودہ فضاء کو خراب کریں۔ میں ایک اور طرف اشارہ کرنا چاہوں گا کہ سیاسی طور پر ہم نے مذاکرات کی پیشکش کی ہے، مذاکرات کے حوالے سے اب بھی ہماری پہلی ترجیح مذاکرات ہیں، اس

حوالے سے ہم نے پیپلز پارٹی سے رابطہ کیا اور انہوں نے مثبت جواب دیا، ہم نے مسلم لیگ (ن) سے رابطہ کیا، انہوں نے مثبت جواب دیا، ہم نے جمعیت علمائے اسلام سے رابطہ کیا، انہوں نے مثبت جواب دیا، جماعت اسلامی سے رابطہ کیا، انہوں نے مثبت جواب دیا اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ مذاکرات کے حوالے سے دہشت گردی کے خاتمے کیلئے جن جن سے رابطہ ہوگا، وہ مثبت جواب دینگے اور عنقریب ہم تمام سیاسی پارٹیوں کا ایک اجلاس بلائیں گے، پھر سیکورٹی ایجنسیوں سے بات کریں گے اور ایک ہی نکتے پر متحد ہو کے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم دہشت گرد جو یہاں پہنچے ہیں، ان سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں۔ ایک بار نہیں، ہزار بار کہتے ہیں کہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، یہ ہماری پہلی ترجیح ہے، یہ ہمارا پہلا آپشن ہے اور اگر اس پہ ہم بار بار کہیں اور اس آپشن پہ کوئی غور نہیں کرتا تو پھر یہی آل پارٹیز کانفرنس میں فیصلہ ہوگا کہ دوسرے آپشن پہ کیسے فیصلہ کیا جائے؟ اس لئے کہ ہم نے مذاکرات کی پیشکش کی، انہوں نے مشروط طور پہ قبول کی، یہ ایک مثبت ماحول بن گیا ہے، اس مثبت ماحول کو خراب کرنے کیلئے لوگ مصروف عمل ہو گئے ہیں، لوگ چاہتے ہیں کہ اس صورتحال کو خراب کریں، کوئی تو ہے جو مذاکرات کرنے نہیں دے رہا، کوئی تو ہے جو مثبت قدم اٹھانے نہیں دے رہا، کوئی تو ہے جو اس دہشت گردی کے خاتمے کیلئے فضاء کو سازگار بنانے نہیں دے رہا، اگر دونوں طرف حالات سازگار ہیں تو کوئی جو یہ واقعات کر رہے ہیں، میں دہشت گردوں سے بھی کہوں گا کہ ہم نے ایک اپیل کی تھی، اس اپیل پہ عمل کیا جائے کہ مذاکرات کی فضاء بننے کیلئے آپ دہشت گردی، تشدد کو ترک کریں، ہم اسلحہ رکھنے کی بات نہیں کرتے، اسلحہ رکھنا ہماری ثقافت میں شامل نہیں، یہ ایک سخت مؤقف تھا جو کہ ہمارا گزشتہ دنوں سے چلا آ رہا تھا۔ اب ہم نے حکمت کی بنیاد پہ تشدد کو ترک کرنے کی بات کی ہے، لہذا تشدد کو ترک کریں اور اگر یہ کوئی بھی کر رہا ہے تو ہم ان سے یہ ضرور کہیں گے کہ یہ فضاء خراب ہو رہی ہے اور اگر آج مذاکرات کی بنی فضاء خراب ہو گئی تو خدا نہ کرے بنگلہ دیش جیسی صورتحال پیدا نہ ہو، لیبیا جیسی صورتحال پیدا نہ ہو، افغانستان جیسی صورتحال پیدا نہ ہو، عراق جیسی صورتحال پیدا نہ ہو۔ لہذا میں تمام لوگوں سے اپیل کرتا ہوں، اس گزشتہ دن جو کہ بہت زیادہ خون بہا، سارے پاکستان میں بہا، میرے مادر وطن میں جب کبھی ہم پھولوں کی بات کیا کرتے تھے، محبت کی بات کیا کرتے تھے، آج گاہے بگاہے ہر جگہ پہ خون ہی خون نظر آ رہا ہے۔ ہمارا کردار بنتا ہے کہ ہم اس خون کو بند کر دیں، مادر وطن کو امن کی طرف لے آئیں اور تمام لوگوں کو امن کی طرف لے آئیں۔ یہی وہ بات ہے کہ آج صحافی شہید ہوئے ہیں تو انکو سلام پیش کرتے ہیں، سیکورٹی ایجنسی والے شہید ہوئے ہیں انکو سلام پیش

کرتے ہیں، عوام بے گناہ جو شہید ہوئے انکو سلام پیش کرتے ہیں اور ساتھ ہم یہی کہیں گے کہ اگر مذاکرات کے ذریعے امن قائم کرنے کیلئے قدم نہیں اٹھایا جاتا، پھر مجبوری ہے کہ ہم اس دہشت گردی کے خاتمے کیلئے ایک ہو کے ان کے خلاف مؤثر کارروائی کریں تاکہ اس ملک میں امن آسکے اور یہ ملک امن سے اس دنیا کے نقشے پر رہ سکے۔ بڑی مہربانی، شکریہ۔

جناب سپیکر: شکریہ جی۔ چونکہ پہلے لیجسلیشن ہو رہی تھی، نور سحر بی بی کا ایک بل آیا تھا جس پہ Consent نہیں آیا، فنانس ڈیپارٹمنٹ کا، تو اس کو میں پیئڈنگ رکھتا ہوں۔

Noor Sahar Bibi to please move for leave of the House to introduce another Bill, the Khyber Pakhtunkhwa, Medical Health Institutions and Regulation of Health care Services (Amendment) Bill, 2013, under rule 77 of the Procedure and Conduct of Business Rules, 1988.

محترمہ نور سحر: سپیکر صاحب! میں اسکو Withdraw کرتی ہوں کیونکہ مجھے ہیلتھ ڈیپارٹمنٹ سے پتہ چلا ہے کہ وہ ایک بل لارہے ہیں جس میں یہ سارا Cover ہو رہا ہے اور جو میری Requirements ہیں وہ اس میں پوری نہ ہوں تو میں اس میں امینڈمنٹس کر لوں گی۔

عورتوں کی خرید و فروخت کی روک تھام کیلئے غیر سرکاری مسودہ قانون

Mr. Speaker: Withdrawn. Next, Shazia Tehmas Khan, to please move for leave of the House to introduce the Prevention and Control of Women Trafficking Bill, 2013, under rule 77 of the Procedure and Conduct of Business Rules, 1988.

محترمہ شازیہ طہماس خان: سر، میں رول 77 کے تحت اس ہاؤس میں 'Prevention and Control of Women Trafficking Bill, 2013' کو پیش کرنے کیلئے اجازت حاصل کرنے کی تحریک پیش کرتی ہوں۔

جناب سپیکر: جی آریبل لاء منسٹر صاحب۔

بیرسٹر ارشد عبداللہ (وزیر قانون): مہربانی سر۔ ایسا ہے، ہاؤس کے ممبرز کی انفارمیشن کیلئے کہ اس پہ Already جو ہے Human Trafficking Ordinance ہے 2002 کا، اور وہ فیڈرل گورنمنٹ کی ایک لیجسلیشن ہے، اس کے اوپر مکمل لیجسلیشن ہے جس میں جو Women کے حوالے سے Trafficking ہے، وہ بھی اس میں Addressed ہے، لہذا ہماری یہ اسمبلی Competent نہیں ہے

آئین کے نیچے، کہ ہم اگر Existing Legislation کے حوالے سے ایسی کوئی لیجسلیشن لیں جو اس کے یا اس سے مطابقت نہ رکھتی ہو یا اسکی Supersession میں کوئی ایسا لاء ہم نہیں لا سکتے، Already prevailing, existing ہے فیڈرل گورنمنٹ میں، پارلیمنٹ میں اس کے حوالے سے ایک قانون موجود ہے، لہذا ہوم ڈیپارٹمنٹ اسکو سپورٹ نہیں کرتا۔
جناب سپیکر: جی شازیہ طہماس۔

محترمہ شازیہ طہماس خان: سر، یہ اس حوالے سے میں تھوڑا سا بتا دوں، 2011 میں یہ بل میں نے جمع کیا تھا، اس دوران مجھے جو دو ان کی طرف سے Objections آئے تھے جس میں، یہ میرے پاس Written پڑا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ Already Women Trafficking نام

سے۔۔۔۔۔
جناب سپیکر: عالمگیر خلیل صاحب، ذرا تھوڑا اس طرف توجہ دیں، پوری مجلس آپ کی طرف ہو رہی ہے جی۔

محترمہ شازیہ طہماس خان: سر، فیڈرل گورنمنٹ کی Women Trafficking کے حوالے سے لیجسلیشن موجود ہے، سر میں نے اپنی تحقیق بھی کی، میں نے Pakistan Institute of Parliamentary Services سے بھی Help لی، اس طرح کی کوئی لیجسلیشن موجود نہیں ہے۔ دوسرا انکا یہ اعتراض تھا کہ اس میں Finances involve ہیں اس وجہ سے ہم اس بل کو سپورٹ نہیں کرتے۔ سر، پھر تقریباً 2012 میں اس بل کو دوبارہ میں نے جمع کیا اور جتنے بھی Finances اس میں Involve تھے، وہ ایشوز میں نے نکال دیئے۔ تیسری دفعہ پھر ان کے Same جو ہیں یہ Objections ہیں کہ جس میں اب Finances involve ہیں جبکہ اس میں سرے سے اس چیز کا ذکر ہی نہیں ہے۔ تو سر، یہ میں بتا دوں کہ 2011 سے اس پہ کام کر رہی ہوں، یہ کوئی اب کا بل، نہیں ہے۔ Secondly اگر اٹھارہویں ترمیم کے تحت جو Women Development Department اور یہ باقی ڈیپارٹمنٹس Devolve ہو گئے ہیں، ہم لیجسلیشن کر سکتے ہیں اس صورت میں جبکہ وہ Inconsistent نہ ہو فیڈرل گورنمنٹ کی لیجسلیشن سے۔

جناب سپیکر: جی۔ آنریبل لاء منسٹر صاحب۔

وزیر قانون: شکریہ جی۔ پہلے تو میں کلیئر کروں کہ Women Trafficking کے حوالے سے، Human Trafficking کے حوالے سے قانون موجود ہے۔

Mr. Speaker: Human?

وزیر قانون: Human میں، تو اگر یہ کہتی ہیں کہ ہم Human میں نہیں آتی ہیں تو وہ تو اور بات ہے، Human include children، خواتین تمام طبقے اس میں آجاتے ہیں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، Already existing laws ہیں، اس پہ نہیں ہو سکتی، Devolution جو ہے، وہ Cr.P.C کی Devolution نہیں ہوئی یا PPC کی Devolution نہیں ہوئی، یہ جو Criminal Law ہیں، وہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہی رہ گیا ہے، وہ پارلیمنٹ کی Jurisdiction ہے اور یہاں پر نہیں ہے۔ اس حوالے سے اس کی کوئی بات نہیں ہے، اس کو ہم نہیں سپورٹ کر سکتے۔ میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ Withdraw کر لیں پلیز۔

جناب سپیکر: جی شازیہ طہماس۔

محترمہ شازیہ طہماس خان: میری اس میں ریکویسٹ یہ ہے کہ جو مجھے لاء ڈیپارٹمنٹ Not Law Department لیکن ہوم ڈیپارٹمنٹ کی طرف سے یہ لیٹر آیا ہے تو مجھے پڑھانے کی بجائے، اگر یہ ہوم ڈیپارٹمنٹ کو پڑھادیں کہ غلط یا Misguide کرنے کی بجائے یہ اپنا ریکارڈ چیک کر لیا کریں تو بہتر ہے۔ اس میں انہوں نے Clear cut لکھا ہے کہ اس طرح کی Legislation on issue of Women Trafficking تو یہ ہے۔

جناب سپیکر: ہمارے سیکرٹریٹ کی طرف سے تو یہ Advice ہے کہ صوبہ لیجسلیشن کر سکتا ہے لیکن اگر Conflict نہ ہو فیڈرل۔۔۔۔۔

محترمہ شازیہ طہماس خان: PPC اور Cr. P.C میں سر بالکل۔

وزیر قانون: یہ اس میں کلیئر لکھا ہوا ہے۔

محترمہ شازیہ طہماس خان: سر کدھر ہے، یہ مجھے دکھادیں؟

Mr. Speaker: According to the Law Department thoroughly examined in the Department, accordingly this Department is of the view that under Article 142 (b) of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, Majlis-e-Shoora (Parliament) and a

Provincial Assembly both have power to make laws with respect to criminal law, criminal procedure and evidence. یہ رپورٹ ہے آپ کے لئے

ڈیپارٹمنٹ کی، ہماری اسمبلی کو Convey ہوئی ہے لاء ڈیپارٹمنٹ کی طرف سے۔

The Federal Government has already promulgated the Law_ Prevention and Control of Human Trafficking Ordinance, 2002, which also covers the subject of-----

جناب ثاقب اللہ خان چمکنی: جناب سپیکر صاحب!

Mr. Speaker: As the Federal Government has already promulgated the law namely 'Prevention and Control of Human Trafficking Ordinance, 2002', which also covers the subject of Women Trafficking. Furthermore, a Private Member Bill, titled, 'the Prevention and Control of Women Trafficking' is moved in the National Assembly and is under consideration. Therefore, the Department is of the view that to avoid duplication or any inconsistency and repugnancy, as enumerated in the Article 143 of the Constitution, the above referred Bill can not be introduced.

جناب ثاقب اللہ خان چمکنی: جناب سپیکر صاحب، جناب سپیکر صاحب۔

جناب سپیکر: جی ثاقب اللہ۔

جناب ثاقب اللہ خان چمکنی: دیرہ مہربانی سر۔ جناب سپیکر صاحب، پہ دیکھنے Main خبرہ دا دہ چہ پہ دہ سبجیکٹ بانڈی مخکبھی نہ لیجسلیشن شتہ دے کہ نشتہ دے؟ او کہ شتہ دے نو ہغہ داسی دے چہ ہغی لہ مونہہ تہ ضرورت نشتہ، Contradictory دے دا دے کنہ، نو زما بہ ریکویسٹ دا وی جی ممبری شازیہ بی بی تہ چہ کہ دا لہ پینڈنگ اوساتی جی او کمیٹی کبھی د دہ Examination وکری جی او د ہغی نہ پس ئے راولی نو دیر مہربانی بہ وی جی، دا خبری بہ دغہ شی نو بنہ بہ وی جی۔

جناب سپیکر: داخو لا Introduce شوے نہ دے، کمیٹی تہ خو بہ ہلہ خی چہ دا Introduce شی۔

جناب ثاقب اللہ خان چمکنی: د ہغی نہ مخکبھی د دغہ وکری خپلو کبھی، دوی بہ ہم ورتہ خپل ثبوت اوبنائی، بیا د ہغی نہ پس کہ راخی نو بنہ دہ کنہ جی۔

جناب سپیکر: جی شازیہ بی بی۔

محترمہ شازیہ طہماس خان: ثاقب صاحب بالکل تھیک وائی، زہ ہغہ تجویز سرہ متفق یم، صرف یو Clarification کوم جی چہی Human Trafficking چہی کوم دے، د فیدرل گورنمنٹ لیجسلیشن موجود دے، ہغہ Out side border نہ علاوہ چہی کوم Trafficking د زنائو کیبری، د ہغہی حوالہ سرہ۔ زما دا لیجسلیشن ہوم دیپارٹمنٹ پہ غور نہ دے پڑھاؤ کرے، دا Within Province چہی کوم Trafficking کیبری یا زمونر د دہی پراونس نہ نورو ٹایونو تہ چہی کوم د زنائو Trafficking کیبری، ہغہی حوالہ سرہ دے، غت Difference دا دے۔

جناب سپیکر: پوہہ شو پری۔

محترمہ شازیہ طہماس خان: زما Reference کبھی دا دی، کہ دا وگورئ نو دا دومرہ غتہ خبرہ نہ دہ، Introduction تہ د پریردی کہ بیا کمیٹی تہ دغہ شی نو دا بہ ما د پارہ Helpful جو پری شی سر۔

جناب سپیکر: بہتر ہی ہے کہ اس کو اگر آپ پینڈنگ رکھ لیں اور ان کے ساتھ بیٹھ جائیں تو اس میں اگر کوئی In between راستہ نکل آئے تو وہ بہتر رہے گا۔ شگفتہ ملک صاحب۔

محترمہ شگفتہ ملک: زہ دغہ خبرہ کوم، کوم چہی شازیہ بی بی 'بل' وو، منسٹر صاحب تہ معلومہ دہ چہی زما Same دغہ دغہ وو، Financial implications خبرہ دوئ کولہ، کہ مونرہ دغہ بانڈی کمیٹی کبھی پہ دہی دغہ وشی نو بیا بہ بنہ وی خکہ چہی دوئ دغہ خبرہ مخکبھی ہم، دوہ کالہ وشو او دغہ کومہ چہی شازیہ خبرہ وکرہ چہی دا چہی کوم پراونس کبھی ہغہ سمگلنگ والا خبرہ دہ، دا ہغہ 'بل' دے۔ دیکبھی داسی قسمہ خہ خبرہ د Human trafficking نشتہ چہی کوم Women Trafficking Bill مونرہ راوڑے دے نو دا خو Kindly کمیٹی کبھی پہ دہی بانڈی مونرہ دغہ وکرہ، تاسو تہ ریکویسٹ کوؤ نو زیات بہ بنہ وی۔

جناب سپیکر: بی بی، پروسیجر ایسا ہے نا کہ جب Introduce ہو جائے، اس کے بعد کمیٹی کا وہ آتا ہے۔

(مداخلت)

میاں افتخار حسین (وزیر اطلاعات): جناب سپیکر صاحب! کمیٹی تہ کہ خی او کہ نہ خی، مطلب دا دے پینڈنگ بنہ دے کنہ۔

جناب سپیکر: بہتر یہ ہے کہ آپ دونوں لاء منسٹر صاحب کے ساتھ (مداخلت) ٹھیک ہے
Coming week میں آپ اس کو دوبارہ لے آئیں، اس وقت تک آپ انکے ساتھ بیٹھ جائیں۔
بچوں کی شادی پر پابندی سے متعلق غیر سرکاری مسودہ قانون

Mr. Speaker: Munawar Sultana Bibi, to please move for leave of the House to introduce the Khyber Pakhtunkhwa, Child Marriage Restrained (Amendment) Bill, 2013, under rule 77 of the Procedure and Conduct of Business Rules, 1988.

محترمہ منور سلطانہ: یرہ مننہ سپیکر صاحب۔

I beg to move for leave under rule 77, to introduce the Khyber Pakhtunkhwa, Child Marriage Restrained (Amendment) Bill, 2013 in the House.

جناب سپیکر: جی آزیبل لاء منسٹر صاحب، اس میں تو کوئی Financial implications نہیں ہیں نا؟
وزیر قانون: نہیں نہیں، اس کے اوپر نہیں ہے، اس کو ہم بالکل سپورٹ کرتے ہیں۔
جناب سپیکر: یہ تو بچیوں کے متعلق، سپورٹ کرتے ہیں؟
وزیر قانون: جی بالکل۔

Mr. Speaker: The motion before the House is that leave may be granted to the honourable Member to introduce the Khyber Pakhtunkhwa-----

(Interruption)

جناب سپیکر: یرہ مودہ پس ارشد عبداللہ صاحب Agree شوے دے۔۔۔

وزیر اطلاعات: نہ جی ہغہ داسی خبرہ چہ دا چونکہ ماتہ حوالہ شوے ہم دے او د لوکل باڈیز سرہ د دہی تعلق وو نو بشیر خان د خدائے پاک او بخنبی نو د ہغوی د مخکنہی نہ یو View موجود وو او سی ایم صاحب ماتہ رالیپولی دی او د ہغی یو مشکل دے پہ دہی لحاظ صرف مالی مشکلات نہ وی خکہ دا خبرہ پہ دہی خائے کنبی کول غواری چہ کلہ د Age خبرہ راخی او د عمر خبرہ راخی او د وادہ خبرہ راخی نو دیکنبی یر مشکلات وی۔ جناب سپیکر صاحب، چہ پہ دہی کوم وخت کنبی چہ مونر خبرہ کوؤ کہ تاسو وایی چہ پہ دہی تولی خبری زہ و کرم نو ہغہ بہ ہم مطلب دا دے چہ یرہ بنہ خبرہ نہ وی نو دا داسی خبرہ چہ پرون پہ سعودی عرب کنبی یو Decision راغلی دے د کورٹ او د اتہ کالو ماشومہ د شپیتو

کالو سہری تہ وادہ دہ، تاسو پہ الفاظو باندی بہ ٲول پوہیری د اسلامک لاء یہ بنیاد ہغہ Decision ور کرے دے چہ داد دہ پہ نکاح کبہی بہ وی خو چہ بلوغت تہ لارہ شی نو دہ تہ ئے حوالہ کرئ۔ اوس تاسو سوچ کوئ چہ کہ فرض کرہ مونرہ د دہ خائہ نہ خبرہ کوؤ، ڊسکشن بہ کوم خائہ تہ خی، د کوم خائہ نہ بہ خبرہ راعی؟ لہذا پہ دہ وخت داسہ خبرہ کول چہ ہغہ غیر ضروری یو خبرہ دہ، دلنہ مونرہ یو Child Protection Bill چہ کوم پاس کرے دے، پہ ہغہ کبہی Already مونرہ 18 years age ایسنودے دے۔ یو بہ ضررہ غوندہ خبرہ شوہ دہ او ہغہ خلقو تسلیم کرہ دہ، لکہ تر اتلس پورہ ماشوم دے، دا ز مونرہ خبرہ دہ چہ مونرہ ئے کوؤ خو چہ کلہ د وادہ او د نکاح خبرہ راعی نو ہغہ کبہی بیا شرع راعی چہ شرع راعی نو شرع باندہ بیا د خلقو مختلف رائے راعی۔ نو چہ ستاسو د مختلف سیکٹرز نہ بیا پہ دہ کلہ رائے راعی نو زما خیال نہ دے چہ بہ ور تہ خان خان لہ ٲینگ شی خکہ چہ د دہ یو ٲنڊورا باکس‘ بہ وی نو کوم کار چہ مونرہ بنیگرہ طرف تہ اور و او پہ یو طریقہ ئے کولے شو، ہغہ بہ بیا کولے نہ شو او چہ چا کرے وی نو کیدے شی چہ ہغہ بیا وائی زہ معافی ہم غوارم خود معافی نہ بہ خبرہ لہ ٲی تلہ وی۔ نو لہذا پہ دہ بنیاد دا یوہ خبرہ چہ شرعاً یو خبرہ مونرہ دلنہ ڊسکس کولے پہ دہ شکل نشو چہ فیصلہ ئے کرو نو بیا ولہ داسہ یو ایشو چہیرو چہ سبا د پارہ مونرہ تہ یو مسئلہ جوہیری؟ نو زہ بخبنہ غوارم فنانشل خو بہ بیا ہم مسئلہ حل شی خو کہ چرتہ داسہ معاشرتی مشکل جوہ شی نو ہغہ بہ بیا ڊیر گران وی، نو ما خو ڊیر بیج بیج کے الفاظ او وئیل کہ تاسو بیا خامخا وائی نو بیا بہ سپین سپین او وایو خو زما پہ خیال چہ دومرہ بہ کافی وی۔

جناب سپیکر: نہ، ہغہ تہ بہ ضرورت نہ وی۔ جی نگہت اور کزئی۔

محترمہ نگہت یا سمن اور کزئی: جناب سپیکر! جس طرح میاں صاحب نے بات کی ہے، میں ان کے ساتھ بالکل Hundred and ten percent متفق ہوں کہ یہ بات بڑی دور تک چلی جائے گی اور پھر

اس میں بہت سے ایسے فقہے، ہمارا اسلام اور۔۔۔۔۔

جناب سپیکر: جی مفتی کفایت اللہ صاحب۔

محترمہ نگہت یاسمین اور کزنٹی: اور اگر ہم اس طرف جانا نہیں چاہتے تو میں ریکویسٹ کرونگی کہ اگر اس کو پیش نہ کرے تو بہتر ہے۔

جناب سپیکر: مفتی صاحب۔

مفتی کفایت اللہ: شکر یہ جناب سپیکر۔ میں بہت پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ہماری قانون سازی پر ہمارے این جی اوز کا بہت بڑا عمل دخل ہے۔ میں معافی چاہتا ہوں، ہمارے ’کولیکز‘ ہیں، ہمیں خود اپنی Ability پیدا کرنی چاہیے اور اپنی قانون سازی خود کرنی چاہیے۔ آپ کو اب کوئی ایک آدمی تھما دیتا ہے ایک بل اور وہ اس این جی اوز کا ہوتا ہے اور ہم اسکا کہاں پر دفاع کرتے ہیں، اس سے مسائل بنتے ہیں۔ وہ این جی او صرف اپنی ادائیگی اور رقم کے حق و خدمت کو درست ثابت کرنے کیلئے ایسا کرتا ہے اور وہ ہمارے لئے مسائل بنا دیتا ہے۔ میری گزارش یہ ہے کہ جب Domestic violence کا مسئلہ آیا تو اس وقت بھی یہ صورت حال پیدا ہوئی، ابھی وہ ریگولیٹری پر بھی ہمارا مسئلہ آیا تو بھی وہ صورت حال پیدا ہو گئی۔ میری اس میں گزارش یہ ہے کہ اس کو ایک بار پھر بھیج دیا جائے سٹینڈنگ کمیٹی کیلئے اور میں میاں صاحب کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ ایک ایسا ڈپنڈور اباکس، کھلے گا اور۔۔۔۔

جناب سپیکر: اس کو پینڈنگ کیا جاتا ہے۔

مفتی کفایت اللہ: اس کو پینڈنگ کیا جائے، بڑی مہربانی۔

جناب سپیکر: آپ آپس میں بیٹھ کے پھر کوئی وہ نکالیں۔ جی، ریزولوشنز:

Syed Jafar Shah, to please move his resolution No. 813.

اصل میں میں ذرا خود (مداخلت) جی، بی بی۔ بی بی! تاسو د مشرانو
تولہ خبرہ واؤریدہ نو دا بہ بنہ وی چہ دا پینڈنگ کرو، تاسو پرہی خپلو کبھی
کبھی۔

محترمہ منور سلطانہ: جناب سپیکر صاحب، داسی خود د پیرو خبرو ممانعت دے، دا
خونہ دہ چہ صرف زمونہ د جینکو یو زندگی تباہ کیبری، د ہلکانو زندگی تباہ
کیبری، پہ ہغی بانڈی مونہہ قانون سازی کوؤ نو د ہغی ممانعت شی او ہغہ خبرہ
تر لری پورہ لارہ شی۔ دا کومہ خبری چہ تر لری پورہ شی پہ ہغی خو یو ملا
راپانخیدو او دا دومرہ تباہی پہ دہی ملک کبھی خورہ دہ یو ہم راپانخیدو، پہ
ہغی بانڈی فتویٰ ورنکری، د ہغی غندنہ ئے ونکرہ او چہ د کومہ خبری د پارہ

مونڙه قانون سازي ڪوڙ نو د وئ راپاڻي، يو به وائي دا خبره به ترلرې پورې لاره شي او تاسو ته به دغه پيش شي، دا خو په ماشومتوب ڪنڀي جيڪي هغه وخت، د هغه وخت بيلڀي تقاضي وڃي، د دڀي وخت بيلڀي تقاضي دي۔ هغه وخت خو به جيئي د اتلس ڪالو بالغه ڪيده نن سبا خو جيئي د اته نهه ڪالو جيئي بالغه وي نو بس د هغڀي واده ضروري دے؟ دا په ڪومه شرع ڪنڀي دا راغلي دي او ڪوم يو قانون دے، په اسلام ڪنڀي دا ڪوم ڄاڻي راغلي دي چي ماشومه جيئي د واده شي؟ هغه د د خپل خان نه نه وي خبر، هغه د مور په غير ڪنڀي پرته وي او د خپلو ذمه واريانو نه نه وي خبر، هغه د هيڻ نه نه وي خبر او هغڀي ته ته دومره ذمه واريانڀي ورپه سر ڪرڀي او بيا په آبادي باندي ڄومره فرق پريوڻي؟ (مداخلت) نه وڀي؟ پيش ٿے ڪرڀي۔

جناب سپيڪر: جي۔

وزير اطلاعات: ما خو خبره ڪول نه غوبنتل خو چونڪه د دڀي خبري ضرورت شو چي زه دا و ڪرم ڇڪه چي۔۔۔۔۔

جناب سپيڪر: پريزده چي ڪه خورده ترڀ جو پريو خوا و ٿے ڪرہ۔

وزير اطلاعات: نه جي رشتيا خبره دا ده چي ما له ڪوم جواب راکرے شوے دے، هغه د دڀي نه ڀير سخت دے چي په ڪوم انداز ڪنڀي ما و ڪرہ۔

جناب سپيڪر: بس پريزده وئ ٿے بيا نو۔

وزير اطلاعات: ڇڪه چي دلته ٿول ايڪٽ هم دے، د اسلامي شرع خبري هم دي، قرآن ڇه وائي، حديث ڇه وائي، هغه ٿوله خبره دلته شته۔

جناب سپيڪر: بي بي! تاسو د وئ سره ڪينيئي، اول خپلو ڪنڀي خبره يو ڪرڀي۔

وزير اطلاعات: جناب سپيڪر صاحب! د Understanding په بنياد به بيا په خپلو ڪنڀي خبره مطلب دا دے خبره و ڪرہ۔

(عشاء کي اذان)

جناب سپيڪر: جي بي بي، مياں صاحب درته ريكويسٽ و ڪرہ۔ جي منور سلطانه بي بي۔

بي۔

محترمہ منور سلطانہ: د میاں صاحب پہ وینا زہ جی دا واپس کوم۔

(تالیاں)

Mr. Speaker: Withdrawn. Thank you.

قرار دادیں

Mr. Speaker: Syed Jaffar Shah, to please move his resolution No. 813.

جناب جعفر شاہ: تھینک یو، جناب سپیکر۔ یہ اسمبلی صوبائی حکومت سے سفارش کرتی ہے کہ صوبہ خیبر پختونخوا کے بہت پسماندہ اور دور افتادہ حلقہ PK-85 سوات جس میں کلام بحرین اور یہ علاقے آتے ہیں، وہاں کے ذہین طلباء اور طالبات کیلئے میڈیکل اور انجینئرنگ کالجوں میں دو سیڈوں کا کوٹہ مختص کرے تاکہ یہ پسماندہ علاقے بھی ترقی کے دائرے میں شامل ہو سکیں۔

جناب سپیکر: جی ٹریڈری۔ خیبر سے کون جواب دے گا؟ جی قاضی صاحب، قاضی اسد صاحب۔ بڑے عرصہ بعد قاضی صاحب لب کشا ہو رہے ہیں۔ جی قاضی صاحب، قاضی اسد صاحب۔

ایک رکن: یہ بھی قادری کے ساتھی ہیں۔

قاضی محمد اسد خان (وزیر برائے اعلیٰ تعلیم): تھینک یو، سر۔ سر، جو جعفر شاہ صاحب نے۔۔۔۔۔

جناب سپیکر: نہیں نہیں، وہ ایک سلجھے ہوئے انسان ہیں، وہ کیوں قادری صاحب کے ساتھ جائیں گے؟ جی۔

وزیر برائے اعلیٰ تعلیم: سر، میں ان شاء اللہ تعالیٰ اس ہاؤس کی عزت بڑھانے والا کام کرونگا۔۔۔۔۔

(تالیاں)

جناب سپیکر: ہاں۔ جی قاضی اسد صاحب۔

وزیر برائے اعلیٰ تعلیم: سید جعفر شاہ صاحب نے جو بات کی ہے، آپ جانتے ہیں سر کہ پورا صوبہ Backward ہے، پسماندگی ہر جگہ ہے اور ان انسٹی ٹیوشنز میں سر اگر ہم Backwardness کی بنیاد پر، ان کا جو حلقہ ہے جس کا انہوں نے ذکر کیا ہے، وہاں کی سیٹس Reserve کر لیں اپنے ان پروفیشنل کالجز میں، میڈیکل کالج میں یا انجینئرنگ کالج میں تو پھر یہ ڈیمانڈ تو سر سارے صوبے سے آئے گی۔ تو یہ پریکٹیکل مجھے نہیں لگتی، Reject میں نہیں کرنا چاہتا، Out rightly ڈیپارٹمنٹ نے Oppose کیا ہے لیکن اگر آپ چاہتے ہیں، اگر آپ سمجھتے ہیں سپیکر صاحب، تو کمیٹی کو مجھوادیں، وہاں پر اس کو Thrash out کرنا ہے۔

جناب سپیکر: نہیں پھر تو Straight away کہہ دو کہ واپس لے لو نا۔

وزیر برائے اعلیٰ تعلیم: میں نے ریکویسٹ تو یہ کرنی ہے۔

ایک رکن: کمیٹی کو سمجھو ادیں۔

جناب سپیکر: جعفر شاہ صاحب بھی ایسی چیز ہے کہ جس چیز کے پیچھے پڑ جاتا ہے نا۔

جناب جعفر شاہ: یہ کمیٹی ٹھیک ہے نا، یہ اچھی تجویز آئی ہے منسٹر صاحب کی طرف سے، میں ان کا مشکور

ہوں۔

جناب سپیکر: ٹھیک۔ وہ پکنی کمیٹی تہ نوہی خبرہ را اویستلہ۔

Is it the desire of the House that the resolution, moved by the honourable Member, may be referred to the concerned Committee? Those who are in favour of it may say 'Yes' and those against it may say 'No'.

(The motion was carried)

Mr. Speaker: The 'Ayes' have it. The resolution is referred to the concerned Committee. Shah Hussain Sahib, to please move his resolution No. 833.

جناب شاہ حسین خان: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چونکہ وفاقی حکومت نے صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع بگلگرام میں الائیڈ خورڈیم کے نام سے منصوبہ شروع کیا ہوا ہے جو تکمیل کے آخری مراحل میں ہے، جس سے تقریباً 121 میگا واٹ بجلی کی پیداوار متوقع ہے اور مذکورہ ڈیم کیلئے ضلع بگلگرام کے عوام نے بے پناہ قربانیاں دی ہیں، لہذا یہ اسمبلی صوبائی حکومت سے سفارش کرتی ہے کہ وہ وفاقی حکومت سے اس امر کی سفارش کرے کہ الائیڈ خورڈیم سے پیدا ہونے والی بجلی میں سے ضلع بگلگرام کے عوام کیلئے ترجیحی بنیادوں پر پانچ میگا واٹ بجلی مفت فراہم کرے۔

جناب سپیکر: جی جناب کون ہے، ٹریژری پنچر سے کون جواب دے گا؟ مفت کی بجلی مانگ رہے ہیں، پانچ

میگا واٹ۔

وزیر قانون: پیئڈنگ بہ ئے پریر دو، ما خو وانہ وریدل، داخه وو؟

میاں افتخار حسین (وزیر اطلاعات): یو منٹ جی۔

ڈاکٹر فائزہ بی بی رشید: سر، میں اس پر بات کرنا چاہتی ہوں۔

وزیر اطلاعات: دوئی ہغہ رائلتی والا خبرہ کوی کنہ جی۔

جناب سپیکر: نہ مفتہ بجلی غواړی، پینځه میگا واټه۔

وزیر اطلاعات: د بټگرام خبره ده کنه جی، د بټگرام په حواله خبره ده او هغه داسې ده چې مفتہ بجلی خو په ټول پاکستان کښې چرته شته نه، بیا د بجلی خبره چې راځی، د هغې خپل زمونږه درائلیتی د صوبې په سطح رائلٹی وی۔ هلته چې کوم دے خپله کومه بجلی چې جوړیږی، په هغې کښې لس فیصده د هغې علاقې خپل حق مقرر دے Already نو هغه دے چې کوم غواړی، دا هر ځای کښې دا مسلمہ اصول دی او هغه به دغلته Apply کیږی او دا مخکښې درې فیصده وو، مونږ چې راغلو پینځه مو کرو او بیا مولس کرو، لہذا دا بالکل هغوی ته به د هغې مطابق خپل حق ملاویږی، د دې نه اضافی چرته طریقہ کار نشته جی۔

جناب شاه حسین خان: هغه بل قرارداد دے، هغه به زما راځی جی۔ بله هفته کښې به هغه ان شاء اللہ راشی، هغه شته دے خودا ده چې مونږ خو وفاقی حکومت ته وینا کوو که اوئے منله تهیک ده، که اوئے نه منله نو مونږ نه به څه واخلی؟

وزیر اطلاعات: وفاقی حکومت ته خو داسې خبره پکار ده چې د ټولې صوبې له یو خبره کیږی، د وفاق نه چې شے غواړو نو داسې مه غواړه چې گڼې مطلب دے هغه خو ته د صوبې نه غوښتے شے چې د بټگرام دننه غواړې خو چې کله د وفاق نه غواړې، هغه خو به ئے صوبې له ورکوی نه چې تا له به ئے درکوی۔ داسې نه شی کیدے چې وفاق به یو ضلعې له ورکړی او نوره صوبه به بائی پاس کړی، نو داسې طریقې سره ئے راوړه چې ستا مسئله پرې هم حل شی او ټوله مشترکه یو خبره وشی۔

جناب سپیکر: جی ووٹ کیلے Put کروں یا کیا کروں؟

جناب شاه حسین خان: دا جی پچاس میگا واټ کړی او ټوله صوبه پکښې راولی۔

جناب سپیکر: داسې خبرې کوئ لکه حجره کښې ناست یی۔ (تقمے) دا څه کوئ یار، دا اسمبلی ده که دا حجره ده؟ نه نه، دا هسې فضول خبرې شروع شوې۔

Next ji, Uzma Khan Bibi, to please move her resolution no. 841.

محترمہ عظمیٰ خان: تھینک یو، مسٹر سپیکر۔ یہ اسمبلی صوبائی حکومت سے سفارش کرتی ہے کہ وہ وفاقی حکومت سے اس امر کی سفارش کرے کہ جس طرح حکومت حج سکیم کے تحت حاجیوں کیلئے سعودی عرب میں پاکستانی ہائی کمیشن کے ذریعے انتظامات کرتی ہے لیکن اس کے برعکس عازمین عمرہ کیلئے کوئی انتظام نہیں کیا جاتا اور ان کو 'ٹور آپریٹرز' کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ 'ٹور آپریٹرز' عازمین عمرہ کیلئے بہتر رہائش اور سہولیات کا جھانہ دیکر زیادہ پیسے وصول کرتے ہیں جبکہ سعودی عرب پہنچنے پر کسی قسم کی سہولت نہ ہونے کی وجہ سے عازمین عمرہ فٹ پاتھوں پر راتیں گزارنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔۔۔۔۔

جناب سپیکر: یہ ریزولوشن ذرا سن لیں، پھر جواب دینا ہے۔

محترمہ عظمیٰ خان: ایسے واقعات سے نہ صرف عازمین عمرہ مشکلات سے دوچار ہو جاتے ہیں بلکہ بین الاقوامی سطح پر پاکستان کے وقار کو بھی نقصان پہنچتا ہے۔ لہذا جس طرح حج کیلئے ڈائریکٹریٹ انتظامات کرتا ہے اس طرح عازمین عمرہ کیلئے بھی پالیسی تشکیل دیکر انتظامات کئے جائیں۔

سپیکر صاحب، دا زمونہ او ستاسو د ڊیرو بہ دا Experience شوے وی چپی مونہ سرہ 'تور آپریٹرز' یو وعدہ و کپری چپی بیا ورشی ہغہ رہائش دو مرہ لہری وی چپی ہغی نہ تک راتگ ہم مشکل وی نو سپیکر صاحب، زما بہ حکومت تہ دا خواست وی چپی دا زمونہ یو ملکی مسئلہ دہ نو پکار دہ چپی دہ بارہ کنبی د لہر Serious action واخلی۔

جناب سپیکر: جی۔ ٹریڈری۔ نیچر سے کون جواب دیگا؟ مذہبی امور، مسٹر نمر و خان۔

جناب نمر و خان (وزیر اوقاف، حج، مذہبی و اقلیتی امور): جناب سپیکر، ڊیرہ مہربانی۔ زہ د عظمیٰ صاحبہ شکریہ ادا کوم چپی دوئی قرارداد راو روپہ ایوان کنبی، دا مسئلہ چپی دہ دا د مرکزی حکومت سرہ دہ۔ د حج او د عمری چپی کومہ پالیسی جو ریبری نو ہغہ مرکزی حکومت کوی، فیڈرل گورنمنٹ کوی نو مونہ ہم، دا زہ سپورٹ کوم، پہ دہ باندہی کوم دوئی چپی قرارداد راو روپے دے نو ان شاء اللہ صوبائی حکومت دیکنبی سپورٹ کوی، قرارداد کنبی د عمری د پارہ چپی کومہ پالیسی د حج د پارہ جو رہ شوہ دہ، عمری د پارہ د ہم داسی جو رہ شی۔

جناب سپیکر: تھیک شوہ جی، سپورٹ کوی ئے؟

وزیر اوقاف، حج، مذہبی و اقلیتی امور: او سپورٹ کوم۔

Mr. Speaker: The motion before the House is that the resolution, moved by the honourable Member, may be passed? Those who are in favour of it may say 'Yes' and those against may say 'No'.

(The motion was carried)

Mr. Speaker: The 'Ayes' have it. The resolution is passed unanimously. Zarqa Bibi, to please move her resolution No. 834.

وقت کی کمی کا احساس کرتے ہوئے۔

محترمہ زرقاتی بی: تھینک یو، مسٹر سپیکر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اسمبلی صوبائی حکومت سے سفارش کرتی ہے کہ وہ وفاقی حکومت سے اس امر کی سفارش کرے کہ یورپ کے بعض ممالک میں مسلمان خواتین کے حجاب پہننے پر پابندی عائد کی گئی ہے جو کہ انسانی حقوق کی دعویداری کے باوجود انسانی حقوق کی کھلم کھلا خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ چونکہ ہر انسان کو اپنے مذہب اور روایات کے مطابق زندگی گزارنے کا حق حاصل ہے تو پھر ایک مسلمان عورت سے یہ حق کیوں چھینا جا رہا ہے، کیا ان کو اپنے مذہب اور روایات کے مطابق زندگی گزارنے کا حق نہیں، کیا یہاں پر اسلامی وقار و افتخار کو مجروح نہیں کر رہے ہیں؟ اس لئے یہ اسمبلی اس پابندی کی بھرپور مذمت کرتی ہے اور وفاقی حکومت سے مطالبہ کرتی ہے کہ وہ سفارشی ذرائع کا استعمال کرے اور اس پابندی پر بھرپور احتجاج کرے۔

میں ذرا جناب سپیکر۔۔۔۔۔

جناب سپیکر: جی آئی بیل وزیر مذہبی امور یا میاں افتخار حسین صاحب۔

میاں افتخار حسین (وزیر اطلاعات): زہ جی پہ دہی ہسپی یو خپلہ خبرہ کول غوارم۔ دا خو د بھر ملک مسئلہ دہ او یقیناً چہی ہر چا تہ د خپل مذہب او د روایت او د عقیدہی مطابق د پردہ اجازت شتہ او دا یو انسانی حق دے خو دا یو خبرہ چہی خنگہ روایات او دا خبرہ کیبری نو د اسلام د طرف نہ د پردہ یو خاص ذکر دے او ہغہی تہ حیا وائی۔ ہغہی کبہی ہم مخصوص خبرہ نشتہ چہی د ہغہی طرز بہ خہ وی؟ پہ عربو کبہی د ہغہی یو طرز دے، پہ ترکی کبہی ئے بل طرز دے، پہ UK کبہی بل طرز دے او زمونہ پہ پبنتنو کبہی ئے بل طرز دے او دا د یو بل نہ کم مسلمانان نہ دی خود دوی خپل ثقافت او روایات پہ دیکبہی شامل دی۔ کہ پبنتانہ د عربیانو غوندہی پردہ کوی نو ہغہ بہ عرب بنکاری او کہ عربی د پبنتنو غوندہی کوی نو ہغہ بہ پبنتون بنکاری، لہذا زما د خپل ثقافت پہ بنیاد دننہ خپلہ پردہ حیا، دا د

هر يو قوم د خپل مذهب او د عقيدې مطابق حق دے لهذا بالکل چې په هغه ځانې کښې کوم د مسلمانانو د خوښې مطابق هغوی کوم حجاب کوی او پرده کوی، دا د هغوی حق دے هیچا ته دا اجازت نشته چې په هغې باندي پابندی ولکوی خود دې اثر چې کوم په نور ملک کښې کیږی چې دا وضاحت لازم وی چې د پښتنو پرده د پښتنو په شان چې د اسلام دننه وی، چې کوم اسلام لارې بنودلې دی چې حياء ته وائی؟ لکه مثال جی تاسو ته درکوم، زه خو عام سرے یم، دلته مفتی صاحب ناست دے که ما نه غلطی کیږی ما به درست کړی، چې د لباس په حواله د رسول اکرم ﷺ خاص حکم دے چې تاسو به داسې لباس اچوئ چې هغې نه بی حیائی نه بنکاری، نو دې دا مطلب نه دے چې گڼې پښت به نه اچوې، که د یو سړی پرتوگ بی حياء وی نو دا منع دے او که د یو سړی پښت حياء دار وی نو دا اجازت شته. لهذا د دې خبرې دا Definition چې گڼې یو پرده تههیک ده او بله تههیک نه ده، د هر ځانې خپله خپله پرده ده، زمونږ د پلار نیکه د روایاتو نه راروانه یو پرده ده، هغه پرده بعینه پښتو هم ده، حياء هم ده، اسلام هم دے او شرم دے. لهذا په دې بنیاد باندي مونږه د دې خپلې پردې دا وایو چې دا ډیره مناسب ده او ډیره تههیک ده. پردے نقل نه دے پکار او ځکه زمونږ اسلام ځانې په ځانې خوریري، که چرته د اسلام دغه پابندی په هر ځانې کښې وه چې گڼې تاسو به د عربو په شان شکل جوړوئ نو ممکن نه وه چې په یورپ کښې چا ایمان راوړے وے، ممکن نه وه پښتنو کښې چا ایمان راوړے وے ځکه چې چا ته د پلار نیکه نه یو ثقافت پاتې وی، هغوی اکثر نه بدلیري نور رسول اکرم ﷺ د حجاب په حواله داسې حکم کړے دے چې حياء وی، ستا چې کوم دے نو پرده کیږی او دا د خپل ثقافت او د روایاتو مطابق د اسلام منافی نه وی. نو دغه یو وضاحت وو، نور بالکل چې په بهر دنیا کښې زمونږه مسلمانان کومه پرده کوی او په هغوی څه پابندی وی، دا د هغوی Right دے چې هغوی خپله پرده وکړی، دا اجازت چا ته نشته دے۔

Mr. Speaker: The motion before the House is that the resolution, moved by the honourable Member, may be passed? Those who are in favour of it may say 'Yes' and those against it may say 'No'.

(The motion was carried)

Mr. Speaker: The 'Ayes' have it. The resolution is passed unanimously. (Applause) Noor Sahar Bibi, to please move her resolution No. 827.

محترمہ نور سحر: تھینک یو۔ سپیکر صاحب، موبائل کمپنیوں کے مختلف پیکیجز سے نوجوان بے راہ روی کا شکار ہو رہے ہیں، خصوصاً فری پیکیجز جس میں نوجوان رات بھر جاگتے رہتے ہیں جسکی وجہ سے نوجوانوں کی تعلیم اور دیگر ضروری کام پر برا اثر پڑتا ہے اور والدین کیلئے پریشانی کا باعث بنتا ہے۔ لہذا یہ اسمبلی صوبائی حکومت سے سفارش کرتی ہے کہ وہ وفاقی حکومت سے اس امر کی سفارش کرے کہ تمام پیکیجز پر اور خصوصاً رات بھر فری پیکیجز پر پابندی عائد کی جائے تاکہ نوجوان نسل تعلیم پر خصوصی توجہ دے سکے، نیز والدین کیلئے بھی پریشانی کا سبب نہ بن سکے۔

جناب سپیکر: یہ تو پہلے بھی کوئی۔۔۔۔

محترمہ عظمیٰ خان: جناب سپیکر، اس بارے میں کچھ کہنا چاہتی ہوں۔

جناب سپیکر: ہاں؟

محترمہ عظمیٰ خان: میں کچھ کہنا چاہتی ہوں۔

جناب سپیکر: اسی پر؟

محترمہ عظمیٰ خان: ہاں جی۔

جناب سپیکر: بات کریں نا۔

محترمہ عظمیٰ خان: سر، مائیک۔ سر، میں نے ایک سال پہلے یہ ریزولوشن جمع کرائی تھی اور سر، آپ نے جو قانون بنایا کہ ریزولوشن Lapse ہو جاتی ہیں ہر سیشن کے بعد، میں نے دو تین بار اس کو Revive کیا لیکن سر، ایک سال بعد یہ میری فائل سے کہیں ادھر ادھر ہو گیا اور اب سیکرٹریٹ نے، میں یہ نہیں کہنا چاہتی ہوں، میری بہت اچھی 'کولیکز' ہیں، میں نہیں کہتی کہ یہ میری 'کولیکز' نے لی ہے لیکن پہلے میں نے جمع کی تھی تو میری ریزولوشن آجانا چاہیے تھی، اچھا کام ہے جو بھی پیش کرے سپیکر صاحب، اس پر مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن جو پہلے جمع کرائی تو اس وقت۔۔۔۔

جناب سپیکر: آپ بھی، آپ بھی اس کو پڑھ لیں، آپ بھی، آپ Favour, support کرنا چاہ رہی ہیں؟

محترمہ عظمیٰ خان: میں سپورٹ کر رہی ہوں لیکن سر، یہ پہلے میں نے، ایک سال پہلے جمع کرائی تھی۔

محترمہ گلہت باسمن اور کزنٹی: جناب سپیکر!

جناب سپیکر: جی نکہت بی بی، تہ نہ غوار پڑی چپی دا پاس شی؟
محترمہ عظمیٰ خان: سر، آپ اپنے سیکرٹریٹ کو پابند کریں کہ جو پہلے Submit کریں۔۔۔۔۔
جناب سپیکر: جی۔

محترمہ گلہت باسمن اور کرنٹی: جناب سپیکر صاحب، شکریہ کہ آپ نے اس قرارداد پر مجھے بات کرنے کا موقع دیا۔ جناب سپیکر صاحب، قرارداد بہت اچھی قرارداد ہے اور اس کو منظور بھی ہونا چاہیے لیکن جناب سپیکر صاحب، آپ کسی کمپنی کو آپ کسی طور پر بھی، پرائیویٹ کمپنی کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ یہ اپنے جتنے بھی آپ کے پیکیجز ہیں، ان کو Off کر دے، یہ ایک خاندانی اصلاحات ہیں کہ ماں باپ، بہن بھائی اپنے لوگوں پر خود نظر رکھیں کہ وہ کہاں بات کرتے ہیں، کہاں بات نہیں کرتے ہیں؟ تو یہ کمپنیز کو آپ Bound نہیں کر سکتے ہیں۔ (تالیاں) یہ ہماری خاندانی اصلاحات ہیں کہ ہم اپنے خاندانوں میں اصلاح کریں، باقی نور سحر بی بی کو میں سپورٹ کروں گی لیکن آپ کسی کو Bound نہیں کر سکتے۔

جناب سپیکر: مفتی صاحب کو بڑی اچھی لگی یہ بات۔ جی میاں صاحب، تہ پکینپی خہ واٹی؟
وزیر اطلاعات: ایسا ہے کہ ہر مسئلہ کافی ٹیکنیکل ہوا کرتا ہے، اس پر بات نہ کی جائے تو پھر مناسب نہیں ہے۔ یہ عجیب سی بات ہے کہ موبائل کا غلط استعمال ہو رہا ہے، کبھی ہم ایک زمانے میں سنا کرتے تھے کہ لوڈ سپیکر کو استعمال نہ کیا جائے، یہ غلط ہے لیکن آج لوڈ سپیکر سرعام ہے اور سب کچھ لوگ سن رہے ہیں۔
 (قطع کلامی)

جناب سپیکر: سبزی بھی اسی پر بھیج رہے ہیں۔
وزیر اطلاعات: بالکل جی، اور یہی ایک زمانہ۔۔۔۔۔

جناب سپیکر: وہ موٹروں، پرانی موٹر پر ٹھیکیل بشیر کے گاؤں والے سارے آتے ہیں، ادھر۔
وزیر اطلاعات: سپیکر صاحب! ایک زمانہ تھا، ایک زمانہ تھا کہ ریڈیو سننا لوگ گوارہ نہیں کرتے تھے، اب گھر گھر ایسے ریڈیو اور ٹرانسمیٹر آئے کہ ہر جگہ پر ریڈیو ہی ریڈیو، پھر ٹیپ ریکارڈرز آئے، پھر ٹی وی آیا، کافی مخالفت ہوتی رہی، وہ پھیلتا رہا، اس پر بھی Negative / positive ہے۔ پھر انٹرنیٹ آیا، انٹرنیٹ کے حوالے سے بھی یہی بات ہوئی، پھر یہاں پر کیبل سسٹم، کیبل سسٹم پر بھی یہ باتیں ہوئیں۔ اگر یہ بات صرف موبائل تک محدود رکھی جائے تو کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ جو پیکیج وہ دے رہے ہیں، اس کو Positive استعمال کیا جائے؟ یہ عجیب سی بات ہے کہ ایک پیکیج وہ اس لئے نہیں دے رہے کہ آپ کس لئے

استعمال کر رہے ہیں، آج اگر بے راہ روی ہے تو شاید یہ تمام چیزیں ہم غلط استعمال کر رہے ہیں لیکن اگر ہم درست سمت جانے لگیں تو یہ تمام چیزیں خود بخود ٹھیک ہو جاتی ہیں، یعنی ٹیکنالوجی کا فرق نہیں ہے پیکیجز کا فرق نہیں ہے، اپنی سوسائٹی کا مسئلہ ہے، لہذا ایسے پیکیجز کہ اگر طالب علم اس سے فائدہ اٹھائے اور رات کے پیکیجز وہ اس طریقے سے استعمال کرے کہ سٹڈی کرے، سوال پوچھے، باہر لوگوں سے رابطہ کرے تو کیا بس یہ ایک ہی بات کیلئے یہ بات ہو رہی ہے؟ خدا را جن کو کرنا ہے، ان کو موبائل کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ کوئی بات ہی نہیں ہے۔ لہذا یہ بات کہ ایک پیکیج ہو تو پھر یہ سلسلہ بڑھتا جائے گا، یہ موبائل سم سے پھر ٹیلی وژن پر ہوگا، پھر وہ اسی طریقے سے انٹرنیٹ پر ہوگا اور ہر ایک پر پابندی لگے گی جس طرح سے آج یوٹیوب پر پابندی ہے لیکن یوٹیوب کو بھی کھولنے کی زیادہ باتیں ہو رہی ہیں کہ ساری دنیا میں جو علم پھیلایا جا رہا ہے، اگر آج وہ رسول اکرم ﷺ کے خلاف گستاخ فلم، جو ان ﷺ کے خلاف بنائی گئی، وہ اس سے ہٹ جائے تو یوٹیوب اتنی مفید ہے کہ سارے پاکستان کے ہمارے جو سٹوڈنٹس ہیں، وہ محروم رہ گئے ہیں یعنی دنیا کے جدید علم کو حاصل کرنے کیلئے مفت، وہ ایک یوٹیوب استعمال کرتے ہیں، آج اس پر پابندی ہے، طلباء کو اتنی تکلیف ہے کہ کوئی اندازہ نہیں کر سکتا، خدا کیلئے ایسی باتیں کی جائیں کہ کل کو ہم پر کوئی ہنسے بھی نہیں، پابندی تو سب پر لگنی چاہیے کہ گھر سے نہ نکلیں، کوئی کچھ نہیں ہوگا، بد قسمتی سے ہمیں نکلنا پڑتا ہے۔ تو جو معاشرے میں ہے اسے قبول کرنا ہوگا۔ بڑی مہربانی۔

Mr. Speaker: Ji, withdrawn?

محترمہ نور سحر: نہ سپیکر صاحب، یو منٹ رالہ راکرئی، زہ خوبیو د دی وضاحت کوم چپی دوئی وائی چپی زما د فائل نہ، نو دی بانڈی زمونہ ایڈیشنل سیکریٹری صاحب، کفایت صاحب گواہ دے چپی۔۔۔۔

جناب سپیکر: تہ ہغہ پریبردہ، دا زمونہ کار دے، دسیکریٹریٹ صفائی بہ مونہہ کوؤ۔

محترمہ نور سحر: بنہ خہ، بنہ سر۔ او باقی چپی دوئی وائی د پیکج دغہ چپی دے، کہ مونہہ ہغوی لہ، مونہہ چپی کومہ معاشرہ کبھی اوسو، کومپی سوسائٹی کبھی اوسو نو ہغی کبھی چپی مونہہ ماشومانو لہ موقعی داسپی ورکرو، تاسو تہ پخپلہ پتہ دہ چپی ہر ماشوم سرہ درپی درپی موبائلونہ دی، دا فری پیکجونہ اخلی نو کہ ہغوی لہ مونہہ موقع ورکرو، کہ ہغوی لہ مونہہ موقع ورکرو نو ہغوی خو بہ

ہم نے ہی نہیں، نوپکار دہ چہی مونہہ بنہ طرف تہ لار شو، ہیخوک ہم صحیح، ہغہ
 یو Oppose کول وی، ہر خہ Oppose کوی نوبس Oppose د کری۔ دوئی خونن
 ہر خہ Oppose کوی، داد ہم Oppose کری، اود کری۔

وزیر اطلاعات: جناب سپیکر صاحب، داسی چل دے، اوس بہ زہ دوئی تہ اوبناہم۔
 اوس بہ ظاہر علی شاہ صاحب، خبرہ داسی دہ چہی دلته شپہ شی بہر دنیا کبہی
 ورخ شی نو داد شپہ مفت پیکج ماد پارہ د بہر دنیا د پارہ دیر مفید دے (تالیان)
 دادیرہ عجیبہ خبرہ دہ۔۔۔۔۔

جناب سپیکر: جی ظاہر شاہ صاحب، ظاہر علی شاہ صاحب۔

وزیر اطلاعات: او مونہہ دوئی تہ یو ریکویسٹ کوؤ چہی داد واپس واخلی خکہ چہی
 بد نیئی نہ وایو خو یوشے موجود دے، کہہ داد سبب و شو نو داد کمپنی ہسہی ہم
 مونہہ لہ خہ نہ را کوی او تاسو وایئ چہی داسٹہ پیکج ہم ترہی واخلئ۔

جناب سپیکر: آنریبل ظاہر علی شاہ صاحب۔

سید ظاہر علی شاہ: جی شکر یہ۔ جناب سپیکر صاحب، میں اپنی بہن نور سحر سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ دنیا
 میں ایک سلسلہ چل رہا ہے اور یہ آگے ہی جا رہا ہے، اس ٹیکنالوجی کو کوئی روک نہیں سکتا، یہ دن بہ دن
 بڑھے گی اور اس پہ کوئی بھی آپ قدر غن نہیں لگا سکتے، تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ یہ اپنی یہ جو
 Move ہے، آپ اس کو واپس لے لیں۔

محترمہ نور سحر: ٹھیک ہے، جناب سپیکر! میں واپس کرتی ہوں۔

جناب سپیکر: Withdrawn - یہ عظمیٰ خان بی بی، آپ کی طرف سے، کس کی طرف سے ایک بات
 آئی؟ ممبران خود قواعد کو پڑھیں کہ ہر اجلاس کے بعد بزنس Lapse ہو جاتی ہے۔ جب ممبران سیکرٹریٹ
 کو نوٹس دوبارہ نہیں دینگے تو سیکرٹریٹ اپنی طرف سے کسی ممبر کی بزنس خود Review نہیں کر سکتا۔ لہذا
 سیکرٹریٹ کیلئے تمام ممبران برابر ہیں۔ جی آنریبل شگفتہ ملک، شگفتہ ملک صاحبہ، Move۔ کونسا نمبر ہے؟
محترمہ شگفتہ ملک: 836۔

جناب سپیکر: 836۔

محترمہ شگفتہ ملک: تھینک یو، جناب سپیکر۔ پشاور میں پاسپورٹ آفس پر کافی رش ہونے کی وجہ سے
 پاسپورٹ بنانے والے لوگوں کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ پشاور آفس پر چار سہ اور نو شہرہ

کے عوام کا بوجھ بھی ہے جس کی وجہ سے دور دراز کے علاقوں کو انتہائی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور دفتر کے اہلکار بھی رش کی وجہ سے پریشان ہو جاتے ہیں۔ لہذا یہ اسمبلی صوبائی حکومت سے سفارش کرتی ہے کہ وہ وفاقی حکومت سے اس امر کی سفارش کرے کہ چار سہ اور نو شہرہ کیلئے علیحدہ پاسپورٹ آفس کا قیام عمل میں لایا جائے تاکہ پشاور پاسپورٹ آفس پر رش کم ہو اور عوام کو تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے۔

سپیکر صاحب، پہ دی لبرہ خبرہ کول غوارم جی۔

جناب سپیکر: نہ بس وخت نشتنہ جی، وخت نشتنہ، بس پاسپورٹ دفتر غوارم جی کنہ، بلہ خہ غتہ نوہی خبرہ خو پکبہنی نشتنہ۔ جی آنریبل۔

وزیر قانون: سپورٹ کوڈ ٹے سر۔

جناب سپیکر: سپورٹ کرتے ہیں۔

The motion before the House is that the resolution, moved by the honourable Member, may be passed? Those who are in favour of it may say 'Yes' and those against may say 'No'.

(The motion was carried)

Mr. Speaker: The 'Ayes' have it. The resolution is passed unanimously.

ایک منٹ ذرا، یہ گندے کاغذوں پر کیوں آپ لوگ ریزولوشن بھیجتے ہیں؟ یہ ٹائپ مشینیں ادھر پڑی ہیں، اس پر آپ Proper format پر بنا کے بھیجا کریں۔ جی سردار بابک صاحب۔

جناب سردار حسین (وزیر برائے ابتدائی و ثانوی تعلیم): مہربانی جی۔ سپیکر صاحب، ڈیرہ زیاتہ شکریہ۔۔۔۔۔

محترمہ شازیہ اورنگزیب خان: زہ جی یو خبرہ کول غوارمہ۔

جناب سپیکر: ودریرہ جی، یو منٹ۔

وزیر برائے ابتدائی و ثانوی تعلیم: ستاسو شکریہ ادا کوم، پوائنٹ آف آرڈر باندی خبرہ کوم سپیکر صاحب۔ ما ہفہ بلہ ورخ ہم سپیکر صاحب، ستاسو پہ نوٹس کبہنی دا خبرہ راوستہی وہ چہی ماشاء اللہ زومونر د دی صوبہ ہسپی ہم روایات بنہ دی، بیا د دی پول ہاؤس ڈیر زیات بنہ روایت پاتہی شوے دے چہی دلته ماشاء اللہ پہ قانون سازی باندی د بھر نہ داسی خہ خلق اثر اندازہ شوی تراوسہ پورہی نہ دی خودا د پرائیویٹ تعلیمی ادارو پہ حوالہ باندی چہی کوم Bill مونرہ راورے

دے دلتہ سپیکر صاحب، او بیا تاسو مہربانی دا کړې ده چې سلیکٹ کمیٹی به تاسو Nominate کوئی، هغه به Notify کوئی، زه ډیر په معذرت سره دا خبره کوم سپیکر صاحب چې دا دومره اهم قانون سازی چې د دې حکومت صوبائی کابینې د هغې Approval ورکړے دے، بیا دلتہ اسمبلی ته راغله بیا مونږه اسمبلی کبني ستاسو په مہربانی سره هغه Bill دلتہ راوړلو، هغې کبني دومره Delay سپیکر صاحب، اوس بهر دا خبرې کیری چې دلتہ هم لکه د امریکې په شان بهر Lobbying کیری او په اسمبلی کبني هغه Lobbying چې دے، هغه اثرانداز کیری او هغه قانون سازی چې ده، هغه لیت کیری۔ زه ډیر په معذرت سره دا خبره کوم او طمع لرم سپیکر صاحب چې دا سلیکٹ کمیٹی چې ده، دا به تاسو نن Notify کړئ او زر تر زره به د هغې میتنگ چې کوم دے، څنگه چې تاسو د استیبلشمنٹ میتنگ رااوغوښتو سپیکر صاحب، زه بیا دیکبني اضافی خبره کول غواړم، تاسو وگورئ سپیکر صاحب چې په دې ټوله صوبه کبني سرکاری سکولونو سره سره پرائیوٹ تعلیمی ادارې چې دی، مونږ هغوی ته ډیر په بنه نظر گورو خو ظاهره خبره ده چې دا یو حکومت دے، دا یو ریاست دے، د دې دننه چې که پرائیوٹ سکول دے، که پرائیوٹ هسپتال دے، پرائیوٹ اداره ده، د هغې د پاره ریگولیتری اتھارٹی چې په وجود کبني نه وی، دا ډیره تاوانی خبره ده، د عوامو د پاره دا واحد خبره ده چې په دې باندې سول سوسائٹی مونږ سره، په دې باندې مونږ سره ټوله میڈیا چې کومه ده یا دا ټول هاؤس چې دے، هغه مونږ سره په دې باندې اتفاق کوی۔ زما به خواست وی سپیکر صاحب چې دا زر تر زره تاسو د کمیٹی Notify کړئ۔۔۔۔

جناب سپیکر: ان شاء اللہ۔

وزیر برائے ابتدائی و ثانوی تعلیم: او د هغې میتنگ هم رااوبلی چې دا قانون سازی چې ده چې دا مونږ زر تر زره وکړو۔ مہربانی۔

جناب سپیکر: انشاء اللہ۔ (سیکرٹری اسمبلی سے) امان اللہ خان! ما ته دا وروستویا د کړه۔

جناب اسرار اللہ خان گنڈاپور: جناب سپیکر! میری یہ ایک ریزولوشن ہے، تھوڑا سا نام دے دیں۔

جناب سپیکر: ہں جی؟

جناب اسرار اللہ خان گنڈاپور: سر، یہ ایک ریزولوشن ہے، بہت ہی Important resolution ہے۔

ہے۔

جناب سپیکر: آپ یار، بی بی بار بار اٹھ رہی ہیں، ان کو ذرا موقع دے دیں۔ آپ بولیں جی، کیا۔۔۔۔۔

Ms. Shazia Aurangzeb Khan: Thank you, Mr. Speaker.

جناب سپیکر: آج چونکہ 'پرائیویٹ ممبرز ڈے' ہے اس لئے میں ذرا Liberal ہر کسی کو موقع دے رہا

ہوں جی۔

محترمہ شازیہ اورنگزیب خان: جناب سپیکر، کل کے۔۔۔۔۔

جناب اسرار اللہ خان گنڈاپور: جناب سپیکر، میں یہ ایک بات کرتا ہوں۔

جناب سپیکر: اس کے بعد، اس کے بعد جی۔ آپ بولیں۔

محترمہ شازیہ اورنگزیب خان: جناب سپیکر، کل کے 'دی نیوز' اخبار میں ایک تصویر چھپی تھی، ارباب

خلیل فلائی اوور کی اور اس کے اندر Cracks پڑے ہوئے ہیں۔ جناب سپیکر، I think اس سے زیادہ

Dangerous بات آج کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ اس پہ جتنی زیادہ آج Passenger کی گاڑیاں جو ہیں، وہ

آج جتنی اس پہ چل رہی ہیں تو خدا نخواستہ یہ کل Collapse ہو سکتا ہے اور میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ

جس کنٹریکٹر کو ایوارڈ دیا گیا تھا، اس کو جلدی میں بنانے کیلئے کہ گرین سیٹ جو اس کا تھا، ابھی تیار ہی نہیں ہوا

تھا اور اس کو ایوارڈ دیا گیا کہ اس نے اس کو جلدی میں تیار کیا۔ تو جناب سپیکر، اس کے اوپر تو ایک انکوائری

بٹھانی چاہئے اپوزیشن، پنچر سے اور ٹریڈری پنچر سے لوگ لیکر اور اس کے اوپر ایک کمیٹی تشکیل دینی

چاہئے تاکہ انکوائری اس کے اوپر بیٹھے اور یہ چیک کریں کہ جناب سپیکر، ابھی تو اس کے اوپر وقت بھی نہیں

گزر اور اس اتے Important Flyover کے اندر Cracks پڑ چکے ہیں اور خدا نخواستہ اگر کل کوئی

بہت بڑا Mishap ہو گیا تو جناب سپیکر، یہ داغ جو ہے یہ دھل نہیں پائے گا۔

جناب سپیکر: شکریہ جی۔ آنریبل لاء منسٹر صاحب۔

وزیر قانون: جی اس وقت میں گزارش یہی کر سکتا ہوں یا تو کوئی سوال لے آئیں یا کال اٹینشن نوٹس یا

ایڈجرمنٹ موشن تاکہ میں ڈیپارٹمنٹ سے بریفنگ لے سکوں اور جو بات انہوں نے کی تو اس وقت تو

اس کی انفارمیشن Readily available نہیں ہیں تو کچھ لے آئیں تو پھر ان شاء اللہ اس کے اوپر کچھ۔۔۔

جناب سپیکر: جو پوائنٹس ہو چکے ہیں، وہ ڈیپارٹمنٹ کو کہہ دیں کہ وہ ذرا چیک کر لے کہ کیا پوزیشن ہے؟

وزیر قانون: جی ٹھیک ہے، صحیح ہے، صحیح ہے۔

جناب سپیکر: کہ واقعی Cracks ہیں، جو بھی ہے پھر اس پرائیکشن لیا جائے۔

وزیر قانون: ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔

محترمہ شازیہ اور نگزیب خان: جناب سپیکر، کل کے اخبار میں اس کی تصویریں آئی ہیں، اس میں بڑے بڑے Cracks پڑے ہوئے ہیں۔

جناب سپیکر: اس کی انکوائری کریں گے نا، ڈیپارٹمنٹ بیٹھا ہے، آپ نے بتادیا، میں نے بھی رولنگ دے دی کہ اس پہ انکوائری کر لیں کہ واقعی اگر یہ صحیح ہو تو اس کو تو ضرور قرار واقعی سزا ملے گی۔ اس پہ انکوائری کی جائے۔ جی بی بی، تہ واہ، تہ خبرہ کوہ خودا دومرہ دغہ اوس نہ دے، دا Last وخت کنبہی دا تاسو قرار داد ونہ را اولیبرل۔ یہ گورنمنٹ کو بھیجیں۔ جی جی۔

محترمہ منور سلطانہ: نہ جی، زہ جناب سپیکر صاحب، مفتی صاحب یو خبرہ و کیرہ چہی دا این جی اوز والا دی بیبیا نو تہ بلونہ تیاری او دوئی ئے بیا پہ اسمبلی کنبہی پیش کوی جی۔

جناب سپیکر: جی جی۔

محترمہ منور سلطانہ: جناب سپیکر، زہ دا وایم چہی مونبرہ خپل خپل کار کولے شو، د بنخود حقوقو د پارہ آواز وچتولے شو، دا خبرہ غلطہ دہ چہی بل تہ مسئلہ کوی او پخپلہ پرہی حملہ کوی، نو دا خبرہ واپس واخلی تاسو خکھ چہی دا مونبرہ دومرہ بی دماغہ ہم نہ یو، نہ بی تعلیمہ یو چہی این جی اوز والا بہ راخی او ہغوی مونبرہ لہ بلونہ را کوی او ہغہ مونبرہ پہ اسمبلی کنبہی پیش کوؤ۔

Mr Speaker: Ji, Israrullah Khan Gandapur, to please move his resolution.

جناب اسرار اللہ خان گنڈاپور: تھینک یو، سر۔ سر، میں مشکور ہوں، یہ میرے خیال میں تمام ممبران اسمبلی اور پورے ملک کا مسئلہ ہے۔ یہ صوبائی اسمبلی نادر کی جانب سے نئے لائسنس کے اجراء اور پرانے لائسنس کی تجدید کے حوالے سے نئے بہانوں اور افسران بالا کی سست روی پر گہرے افسوس کا اظہار کرتی ہے اور اعلیٰ حکام سے اس سست روی پر باز پرس کرنے کی استدعا کرتی ہے، نیز وفاقی حکومت بالخصوص محکمہ داخلہ سے اپیل کرتی ہے کہ وہ نئے لائسنس کے اجراء اور پرانے لائسنس کی تجدید کے

حوالے سے فوری اقدامات کرے اور تاوقت Renewal سیکورٹی اداروں کو ہدایات جاری کرے کہ چیکنگ کے دوران تجدید کے حوالے سے زور نہ دیں۔

سر، اکثر یہ جو کوہاٹ ٹنل سے آپ گزریں یا اگر سوات سائڈ پر جائیں، وہ سیکورٹی کے جو عملے ہوتے ہیں، وہ اس حوالے سے کافی زور دیتے ہیں۔ تو میری یہ قرارداد جو ہے، مہربانی کر کے منظور کی جائے۔ تھینک یو، سر۔

جناب سپیکر: آنریبل لاء منسٹر صاحب۔

وزیر قانون: سپورٹ کوڈ ٹے جی۔

جناب سپیکر: ہس؟

وزیر قانون: سپورٹ کوڈ ٹے جی۔

جناب سپیکر: سپورٹ کوڈ ٹے جی؟

The motion before the House is that the resolution, moved by the honourable Member, may be passed? Those who are in favour of it may say 'Yes' and those against may say 'No'.

(The motion was carried)

Mr. Speaker: The 'Ayes' have it. The resolution is passed unanimously. Faiza Bibi Rasheed Sahiba, to please move for consideration of the Khyber Pakhtunkhwa, Labour Laws Application on Workmen Bill, 2012.

Dr. Faiza Bibi Rasheed: Thank you, Sir. I beg to move that the Khyber Pakhtunkhwa, Labour Laws Application on Workmen Bill, 2013, may be taken into consideration at once.

جناب سپیکر: جی آنریبل لاء منسٹر صاحب۔

وزیر قانون: یہ لیبر ڈیپارٹمنٹ جو ہے سر، اس کو سپورٹ نہیں کرتا، اس میں کچھ Definitions جو ورکر کی Definition ہے، وہ اتنی وسیع کر دی گئی ہے کہ ایک دن کیلئے بھی کوئی کہیں پر ڈیلی ویجز کا کام کرے گا تو اس کو بھی ورکر کے جو پورے رائٹس ہیں، وہ دینا پڑینگے۔ انڈسٹریز کیلئے صوبے کیلئے یہ جو ہے، لیبر ڈیپارٹمنٹ اس کو سپورٹ نہیں کرتا جی۔

جناب سپیکر: Implementation ممکن نہیں ہے؟

وزیر قانون: نہیں، Impossible، دہ جی، Impossible، دہ، نہیں ہو سکتا۔

محترمہ نگہت یاسمین اور کرنی: جناب سپیکر، فائزہ بی بی کو میں سپورٹ کرتی ہوں۔ چونکہ انہوں نے اس بل پر کافی محنت کی ہے اور سالہا سال اس پر کام کر کے اس کو تیار کیا ہے تو لہذا میں اس کو سپورٹ کرتی ہوں۔

جناب سپیکر: جی۔

ڈاکٹر فائزہ بی بی رشید: جناب سپیکر، یہ بل میں نے Last year، 5 جنوری 2012 کو Introduce کیا تھا تو ابھی تک جو Concerned Ministry ہے، لیبر ڈیپارٹمنٹ، انہوں نے میرے ساتھ کوئی رابطہ نہیں کیا، انہوں نے کوئی اس پر Objection نہیں کیا۔ دوسری بات سر، اس پہ لمبی چوڑی میں نے سٹیج بھی کی تھی کہ یہ جو ہے، اس سے تو حکومت کو بہت فائدہ ہے۔ ان سال انڈسٹریز یا جو مختلف بھٹے ہیں، وہاں پہ کام کرنے والے جو لوگ ہیں، وہ انتہائی کسمپرسی کی زندگی گزار رہے ہیں اور جو Real معنوں میں Physical work دیتے ہیں، اپنی محنت بیچتے ہیں، ان کو اتنا معاوضہ بھی نہیں دیا جاتا کہ وہ پیٹ بھر کر کھانا کھا سکیں اور خاص طور پہ انکی خواتین جو ہیں جب ان کی زندگی ہوتی ہے، وہ بھٹے پہ ہی ان کی، 2012 میں ایک سروے کیا گیا ہے کہ جتنی بھی زندگی میں اموات ہوتی ہیں، ان میں 47% خواتین جو ہیں، وہ بھٹے کی خواتین ہیں۔ تو سر میں ریکویسٹ کرونگی کہ چونکہ یہ جو لوگ ہیں، جو 'اوورز' ہیں، یہ سال انڈسٹریز کے یا اس طرح کی جو انڈسٹریز ہیں، اس سے حکومت کو بھی فائدہ ہو گا کیونکہ وہ 'ای او بی آئی' اور دوسرے جو ٹیکسز ہیں، وہ چونکہ لیبر لاء کے انڈر نہیں آتے تو وہ حکومت کو کچھ بھی Pay نہیں کر رہے ہیں جبکہ بہت بڑا منافع کما رہے ہیں اور جو مزدور ہیں جو کہ اس سماج کی ریڑھ کی ہڈی ہیں، ان کا بھی استحصال کر رہے ہیں، تو میں معزز ایوان سے Human basis پہ یہ ریکویسٹ کرونگی کہ وہ لوگ جو اس سماج کو چلاتے ہیں، ان کیلئے اگر لیجسلیشن آتی ہے تو اس پہ کوئی Objection نہ کریں اور اس کو پاس کریں کیونکہ جو سرمایہ دارانہ سسٹم ہے سر، دوسرے ملکوں میں یہ Workman کی جو Definition ہے، وہ سارے ملکوں میں Apply ہوتی ہے، کیوں ہمارے ملک میں اور ہمارے صوبے میں نہیں ہو سکتی؟ اس لئے میں ریکویسٹ کرونگی کہ اس کو وہ Consider کیا جائے۔

جناب سپیکر: لیبر ڈیپارٹمنٹ، لیبر ڈیپارٹمنٹ کو ڈائریکشن دی جا رہی ہے کہ وہ آنریبل ممبر صاحبہ کے ساتھ بیٹھ جائے، دو سال سے یہ پیش کیا جا چکا ہے، ان کے ساتھ پوری Negotiation کرنے کے بعد ان کی تسلی کروادیں یا آگے موڑ کر وائیں اس کو۔ اس کو پینڈنگ رکھتے ہیں پینڈنگ۔

The Sitting is adjourned till 03:00 pm of Monday afternoon, 14th January, 2013.

(اجلاس بروز سوموار مورخہ 14 جنوری 2013ء بعد از دوپہر تین بجے تک کیلئے ملتوی ہو گیا)